

# تذکرہ احسان اور آکا برائی

لار

حضرت قطب الدین ملا صاحب دامت برکاتہم  
لهم کے بی الیہ

مجاز بیعت حضرت اقدس انعام الحمد بن نظیر علیہ السلام  
و مجاز بیعت حضرت ولانا مطیع الرحمٰن صاحبہ کی دامت برکاتہم  
و مجاز بیعت حضرت پیر زد الفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم

بیشتر

ڈاک بستگان خانقاہ مسجد دوبہ

بائیبان الائچہ سکول کے پیچے بھینڈی بازار بیگام - ۵۹۰۰۲

## انساب

(الف) بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ  
(جن کی شورش پر سونے امت کو خواب ناز سے جگایا۔

شورش عند لیب نے روح چمن میں پھونک دی  
ورسہ یہاں کلی کلی مست تھی خواب ناز میں )

(ب) حضرت جی ثانی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ  
(جنہوں نے ثابت کر دیا کہ ——————

یقین مکمل عمل پیغم ، محبت فاتح عالم  
جهاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں )

(ج) حضرت جی ثالث حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ  
(جنہوں نے راہِ اعتدال سے امت کی رہنمائی فرمائی۔

در کفِ جامِ شریعت در کفِ سنداںِ عشر  
ہر ہونا کے نداندِ جام و سنداں باختن )

(د) آغاز تحریک سے آج تک کے تمام مبلغین و مجاہدین  
(جنہوں نے جہاد و قربانیوں کی ایک نئی داستان مرتب کی

خورشید جہاں تاب کی ضوئیتے شر میں آباد ہے اک تازہ جہاں تیرے ہنر میں  
چھتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں جنت تری پہباں ہے ترے خون گجر میں  
اے پیکرِ گل کوشش پیغم کی جزا و دیکھ  
کے نام اس تالیف کو منسوب کرتا ہوں۔

عبد ضعیف  
قطب الدین ملا  
بیلگام

## جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

کتاب کا نام :-	تذکرہ و احسان اور اکاڈمی پبلیکیشن
مصنف :-	قطب الدین ملا - بیلگام (کرناٹک)
دوسرا ایڈیشن :-	ستمبر ۲۰۱۱ء - شوال ۱۴۳۳ھ
تعداد :-	۷۵۰
کمپوزنگ :-	مولانا محمد آصف انعامی
طباعت :-	کاکوئی آفسیٹ پر لیں لکھنؤ

قیمت: Rs. 50/-

## » ملنے کے پتے «

۱) خانقاہ نعمانیہ مجددیہ مدد اپور، پوسٹ نیرل، تعلقہ کرجت، ضلع رائے گڑھ (مہاراشٹر)

۲) الفرقان بک ڈپو 144/31 نظیر آباد لکھنؤ ۲۲۶۰۱۸

۳) محمد حنفی صدیقی، بھارت پاپس، مسجد قباقا مپلیکس، آزاد گل

بیلگام - 590002  
Mobile: 09448635126

## ناشر

وابستگانِ خانقاہِ محمودیہ

باشیان ہائی اسکول کے پیچے، بھینڈی بزار بیلگام - ۵۹۰۰۰۲

## فہرست

صفحہ	عنوان
۱۱	ختن اولیں
۱۵	<b>ترکیہ و احسان اور اکابر تبلیغ</b>
۱۵	دین کا ایک نہایت اہم شعبہ، ترکیہ و احسان
۱۶	دعوت و تبلیغ کا کام مدرسون کا مخالف نہیں
۱۶	مولانا محمد یوسفؒ کا ارشاد، ہم پڑھانے کو بنیادی کام سمجھتے ہیں
۱۸	دعوت و تبلیغ کا کام تصوف کا بھی مخالف نہیں
۱۸	فرائضِ نبوت
۱۹	نور و بدایت
۱۹	اسلام پر فتنوں کی یورش
۱۹	حضرت مجدد الف ثانیؒ کی سرگرمیاں
۲۱	حضرت مجدد الف ثانیؒ نے تصوف کی لائے ہی کا یالپٹ دی
۲۱	مجددانہ کوششوں کے ثرات
۲۲	سلسلہ صابریہ چشتیہ کی کوششیں
۲۲	غدر کے بعد کے حالات
۲۳	<b>حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ اور ترکیہ و احسان</b>
۲۳	الیاسی فکر و مزاج پر اثر انداز ہونے والا پس منظر اور اہم عوامل
۲۳	گنگوہ کی صحبوں کے اثرات
۲۴	اکابر شخصیات اربعہ کا اثر
۲۵	

بمصنفے بر سار خویش را کہ دین ہمہ اوست  
اگر باو نہ رسیدی تمام بولہیست

حکمتِ یونانیاں را خواندہ  
حکمتِ ایمانیاں را ہم بخواں

نفس نتوں کشت الا ظل پیر  
دامن آں نفس را سخت گیر

عنوان	صفحہ
جنبدہ حریت اور بیعت جہاد خانقاہی نظام سے واپسی	۲۶
مجاہدہ و ریاضت	۲۶
دینی حمیت	۲۷
جہد و محنت کے مقاضی میدان	۲۸
عمومی محنت کی طرف توجہ	۲۹
عمومی محنت کے ذریعہ کیا چاہا جا رہا تھا؟	۳۰
امت کی اصل پیاری	۳۰
تحریک کا اصل مقصد	۳۱
ظاہر و باطن کی فتوؤں کا صحیح مصرف	۳۱
دین اور دین کے بارے میں فکر الیاسی کا خلاصہ	۳۲
بہادر زندگانی میں الیاسی شمشیریں	۳۳
اسلاف سے بے اعتمادی فتوؤں کے دروازے کھول دیتی ہے	۳۳
حضرت مولانا محمد الیاس اور سلوک و طریقہ	۳۶
سلسلہ بیعت	۳۷
مولانا محمد الیاس کا شیخ الحدیث کو بیعت کرنے کا حکم	۳۸
دعوت و تبلیغ اور علم و ذکر کار بیان و تعلق	۳۸
علم و ذکر کے بغیر، فتنہ و ضلالت کا اندریش	۳۹
علم و ذکر کے بغیر، یہ تحریک سرا سرمادیت ہے	۴۰
ذکرِ سانی و نقلی	۴۱
بیعت کے بعد ذکر کرنا ضروری ہے	۴۲
اپنے مریدوں کو حضرت مولانا محمد الیاس کا ذکر تلقین کرنا	۴۲

عنوان	صفحہ
ذکر، مشائخ کی نگرانی میں ہو	۳۳
ذاکرین کی نگرانی	۳۵
حضرت جی مولانا محمد الیاس کا ذکر کا معمول و اہتمام	۳۶
دعاؤنابات الی اللہ	۳۷
ترکیہ نفس کی فکر، اعتکاف کا اہتمام اور خانقاہی نظام سے	۳۸
حضرت مولانا محمد الیاس کا تعلق	۳۸
<b>حضرت جی دوم حضرت مولانا محمد یوسفؒ اور ترکیہ و احسان</b>	۵۲
حضرت مولانا محمد یوسفؒ کا اپنے والد سے بیعت ہونا	۵۲
حضرت مولانا محمد یوسفؒ کی خلافت و امارت	۵۲
حضرت مولانا محمد یوسف صاحبؒ کا طریقہ بیعت	۵۶
ماہ مبارک میں اعتکاف	۵۷
مولانا محمد یوسف صاحبؒ کے ماہ مبارک کے معمولات	۵۹
<b>حضرت جی سوم حضرت مولانا محمد انعام الحسنؒ اور ترکیہ و احسان</b>	۶۲
حضرت مولانا محمد انعام الحسنؒ کی بیعت	۶۲
حضرت مولانا محمد انعام الحسنؒ صاحبؒ کا ذکر کا اہتمام	۶۳
حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے دو چراغ	۶۳
حضرت مولانا محمد انعام الحسنؒ صاحبؒ کو اجازت و خلافت	۶۳
حضرت مولانا محمد انعام الحسنؒ صاحبؒ کی امارت و بیعت	۶۳
بیعت و طریقہ کے متعلق حضرت مولانا محمد انعام الحسنؒ صاحبؒ کے	۶۴
بصیرت افروز خیالات	۶۵
حضرت جی مولانا محمد انعام الحسنؒ صاحبؒ کا طریقہ بیعت	۷۰

## عنوان

## صفحہ

بعربیت، حضرت جی کی تعلیمات  
معمولات کی پاہندی اور اس کا اہتمام  
سلوک و احسان کے بارے میں آپ کے مکتوبات  
بیعت ہونے والوں کے لئے معمولات اور وظائف  
ذکر کے بارے میں حضرت جی کے خیالات  
حضرت جی کی فکر و رؤیٰں کی وسعت و اعتدال  
پورے دین کی محنت  
استخلاص

## دین میں ذکر کی اہمیت

ذکر اللہ کی کثرت کا حکم اور اس کی حکمت  
جہاد میں بھی کثرت ذکر کا حکم اور اس کی ضرورت  
دعوت و تبلیغ اور دینی جدوجہد کے موقع پر کثرت ذکر کا حکم  
مصلح و داعی کیلئے کثرت ذکر کی ضرورت  
اہل قلوب اور مقامِ قطبیت

جو اللہ کے ذکر اور یاد سے روکے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟  
ذکر کی مجلسیں

حضرت مولانا محمد منظور نعماٰنی اور مجلسِ ذکر  
مجلسِ ذکر اور ان پر نسبت نہ فوائد  
مجلسِ ذکر کے مرکز، مساجد اور خانقاہیں ہیں  
بنگلہ والی مسجد، مرکزِ تبلیغ میں ذکر بہر اور مجلسِ ذکر  
دیگر مشائخ کی مجلسِ ذکر

## عنوان

## صفحہ

۹۷	<b>تبليغی اکابر کی طرف سے علماء و مشائخ کی قدردانی</b>
۹۷	حضرت مولانا محمد الیاس کانیا زمندی کا تعلق سب سے رہا
۹۷	علماء کی خدمت میں استفادہ کی نیت سے جائیں
۹۷	علماء پر اعتراض، بہت سخت چیز ہے
۹۸	مبلغین، ایل علم و ذکر کی صحبت سے مستفید ہوں
۹۸	حضرت تھانویؒ نے بہت بڑا کام کیا ہے
۹۸	حضرت تھانویؒ کے لوگوں سے اور ان کی کتابوں سے استفادہ کیا جائے
۹۹	حضرت مولانا محمد یوسفؒ کو بھی اپنے اکابر سے انتہائی محبت تھی
۹۹	علماء کی خدمت میں حاضری و عبادت سمجھیں
۹۹	مولانا نامدیؒ کا اٹھ جانا دنیا سے بڑی خیر کا اٹھ جانا ہے
۱۰۰	مشائخ کے خدام باماکال تھے
۱۰۰	مفتی محمود حسن صاحبؒ اور مولانا محمد انعام الحسن صاحبؒ
۱۰۲	<b>امت پنے کی دعوت</b>
۱۰۲	دین کے تمام حلقوں میں یگانگت پیدا کرنا ہمارا اہم مقصد ہے
۱۰۲	ہماری کوئی علیحدہ جماعت نہیں ہے
۱۰۳	عوام کو علماء سے جوڑنا ہے
۱۰۳	مختلف عصیتیں زندہ ہوتی ہیں تو امت ثوث جاتی ہے
۱۰۳	امت میں امت پنالانے کے لئے حضرت مولانا محمد یوسفؒ کی ایک یادگار تقریر
۱۰۷	<b>دینی محنت کا عالمی مرکز، مسجد نبویؒ</b>
۱۰۷	عومی تعلیم و تربیت طریقہ نبویؒ کے مطابق ہو
۱۰۷	تمام مسجدوں میں، مسجد نبویؒ والے اعمال ہوں

## ﴿ سخن اولین ﴾

اللہ تعالیٰ کی رحمت جب اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو وہ ان کی ہدایت کے اسباب کو ظاہر کر دیتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت اسی کے لئے ہوتی ہے۔ اور وہ خدا کے بندوں کو خدا کی طرف بلا تے ہیں۔ نبی پاک ﷺ کے نظم نبوت کے صدقہ میں یہ کام امتِ محمدیہ کے ہر فرد کے ذمہ آگیا۔ اور بالخصوص علماء و مشائخ اس کے اصل اہل اور ذمدادار ہیں۔

دین کی دعوت اور اس سلسلہ کی محنت کے فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ اور علماء و مشائخ کے اقوال بھی ملتے ہیں۔ اس کا انکار "حضور" کے نظام دعوت" کا انکار ہے۔ اسلئے دعوت و تبلیغ کا یہ ظیم کام غیر ضروری اور نئی تعبیرات کا ہتھیج نہیں۔ اس کی اپنی عظمت و اہمیت ہے۔

مبارک ہیں وہ انسان جن کو اللہ ہی نے اس مبارک محنت میں لگنے کی توفیق دی ہے، اسلئے اپنے ضعف و کمزوری اور اپنی نااہلی کے باوجود، شکر گذاری کے جذبہ کے ساتھ اور کثرت استغفار کے ساتھ کام میں پوری تندی ہی کے ساتھ لگے رہنے کی ضرورت ہے۔

جن حضرات کو اللہ کی طرف سے دعوت و محنت کی توفیق ملی ہے ان کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کام کے نجح کو اور اس کو نعمیت و نزاکت کو سمجھنے کی فکر و کوشش کریں۔ ان کے قول و فعل سے کام پر کسی طرح کی زدہ پڑے۔ ہمارا برتاؤ بھی ٹھیک ہو اور ہمارے بول بھی ٹھیک ہوں۔

جب کوئی کام پھیلتا ہے تو اس کام کا اپنی نجح پر اور اصولوں پر باقی رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں — ”عروج کے زمانہ میں اور استقبال کے زمانہ میں جس طرح کام ترقی کرتا ہے، اندر غرور بھی پیدا ہوتا ہے کام کرنے والوں میں اور یہ ہے مصیت۔ مال کا

## عنوان

## صفحہ

۱۰۸	ہماری محنت، نبی اولے خاص نقشہ کے مطابق ہو
۱۰۸	مسجد و امداد مخصوص اعمال سے مسلمانوں کی زندگی میں امتیاز تھا
۱۰۹	مسجد نبوی، ذکر و تعلیم اور دعوت کا مرکز تھی
۱۱۰	دعوتی سرگرمیاں
۱۱۲	دموٹی سرگرمیوں کا ایک جائزہ
۱۱۳	نظام تعلیم
۱۱۵	تحریر و کتابت
۱۱۶	ترکیہ و احسان
۱۱۷	ذکر کا اہتمام
۱۱۸	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ذکر
۱۱۹	حضرت شیخ" کا خواب، خانقاہوں کے قیام کے پارے میں
۱۲۰	روال دوال، کارروال
۱۲۱	بگھہ والی مسجد، امیدوں کا مرکز
۱۲۲	فہرست مآخذ و مراجع
۱۲۳	
۱۲۴	
۱۲۵	
۱۲۶	
۱۲۷	
۱۲۸	

## رابطہ کیلئے فون نمبرات

(۱) حضرت قطب الدین ملا دامت برکاتہم

Mobile : 09341107199

web site : www.apniislah.com

E-mail : qutbuddinmulla@yahoo.co.in

qutbuddinmulla@yahoo.com

(۲) محمد حنفی صدیقی

Mobile : 09448635126

Mobile : 09341100348

(۳) نوشاد ملا

Mobile : 09341100348

غورو، عبادت کا غورو، سب چیزوں کا غورو ہوتا ہے۔ جیسے کھانے کی چیزیں، خصم ہوتی ہیں تو بد نیز ہوتی ہیں۔ خصم نہ ہو تو بد خصم ہوتی ہے۔ ایسے ہی دین کے کام میں بھی بد خصم ہوتی ہے کہ غورو پیدا ہوتا ہے۔ اور غورو کے بعد آپس میں الافت و محبت اور جوڑ ختم۔“ (الفرقان اپریل ۱۴۰۷ء)

اس لئے میدانِ عمل میں سرگرم رہنے والوں کے لئے یہ انتہائی ضروری ہے کہ کام کو ان سے سمجھا جائے جن سے اللہ نے کام لیا ہے۔ امت کے دروغم اور فکرو کر ڈھن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک کام اور محنت کو حضرت مولانا محمد الیاس پر ہکولا۔ لیکن ان کی احتیاط کی حد کو ان کے اس قول سے سمجھا جاسکتا ہے کہ —

”میری حیثیت ایک عام مومن سے اوپری نہ سمجھی جائے، صرف میرے کہنے پر عمل کرنایا ہوئی ہے۔ میں جو کچھ کہوں اس کو کتاب و سنت پر پیش کر کے اور خود غور و فکر کر کے اپنی ذمہ داری پر عمل کرو۔ میں تو بس مشورہ دیتا ہوں۔

پھر آگے فرماتے ہیں — حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ ”تم نے میرے سر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، تم سب میرے اعمال کی نگرانی کیا کرو۔“ — میری بھی اپنی دوستوں سے بڑے اصرار والخاخ سے یہ درخواست ہے کہ وہ میری نگرانی کریں۔ جہاں غلطی کروں وہاں تو کیں اور میری رشد و سداد کے لئے دعا کیں بھی کریں۔“ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس ص ۱۶۹)

اس لئے محنت کرنے والوں کیلئے جہاں محنت کرنا ضروری ہے وہیں ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے۔ اور کام کرنے والوں کیلئے اپنے اکابرین کی فکروں کا ان کی منشاء کا اور ان کی وسعتِ نظر کا سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ کام اپنے بجھ پر باقی رہے۔ اس کام میں بڑی وسعت ہے۔ اور ہمیں وسعتِ قلبی کے ساتھ چلنا ہے۔ انیسویں صدی کے نصفِ اول میں بعض اہل قلم نے اپنے مضامین اور کتب میں اپنے قلم کو کچھ اس طرح چایا کہ امت میں (الف) علماء پر اعتراض کرنے والے پیدا ہوئے اور (ب) اسلاف سے بے اعتمادی پیدا ہوئی۔ اس طرح آزاد روی اور خود رائی کی فضائی بنے

گی اور (ج) ذکر و تصور کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ زہر تھا جو امت کو تریاق سمجھ کر پلا یا گیا۔ اس طرح مدرسہ، خانقاہ وغیرہ کی نفرت اور بے قعی امت میں پیدا ہونے لگی۔ اس وقت کے اکابر نے اس طرف پوری توجہ فرمائی کہ امت اس طرح کے فتوں کا شکار ہے ہو جائے۔ علمائے حق نے اس طرح کے مفسد خیالات کا کھل کر جواب دیا۔ یہ وہ موقع تھا کہ ”تبلیغ و دعوت“ کا کام بھی ابھر رہا تھا۔ حضرت مولانا محمد الیاس نے بھی خطرہ کو محسوس کیا اور اس کے سدی باب کی طرف توجہ فرمائی۔ (الف) جماعت میں نکلنے والوں کو ترغیب دی جاتی رہی کہ کسی مقام پر جائیں اور معلوم ہو کہ وہاں علماء و صلحاء رہتے ہوں تو پہلے ان کی خدمت میں حاضری دیں، ان سے دعا کی درخواست کریں اور ان کا تعاون حاصل کرنے کی پوری فکر کریں۔ اس طرح کی ترغیب اسی لئے دی جاتی تھی کہ علماء و عوام میں دوری نہ پیدا ہو۔ (ب) دوسری طرف اسلاف سے بے اعتمادی پیدا نہ ہو کہ اس طرح خود رائی اور آزاد روی کا شکار ہو کر امت دین سے دور نہ ہو جائے۔ حضرت مولانا محمد الیاس نے بڑی صراحت سے فرمایا کہ —

”اس سلسلہ کا ایک اصول یہ ہے کہ آزاد روی اور خود رائی نہ ہو بلکہ اپنے کو بڑوں کے مشوروں کا پابند رکھو جن پر دین کے بارے میں ان اکابر مرحومین نے اعتماد طاہر کیا، جن کا اللہ کے ساتھ خاص تعلق معلوم و مستم ہے۔“

(ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس ص ۱۲۰)

اور (ج) تیسرا طرف اس کی بھی فکر کی گئی کہ امت ”ذکر اللہ“ سے دور ہو کر اپنا تعلق خدا سے توڑنے بیٹھے۔ کام کرنے والوں میں علم دین اور ذکر اللہ کی اہمیت پیدا ہو۔ اسلئے فرمایا کہ —

”آپ لوگوں کی یہ ساری چلت پھرست اور ساری جدوجہد بے کار ہو گی اگر اس کے ساتھ علم دین اور ذکر اللہ کا پورا اہتمام آپ نہ نہیں کیا۔ بلکہ سخت خطرہ ہے اور قوی اندیشہ ہے کہ اگر ان دو چیزوں کی طرف سے تغافل بر تا گیا تو یہ جدوجہد مبادا فتنہ اور ضلالت کا ایک نیادر و ازہ نہیں جائے۔“ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس ص ۳۹)

اس طرح حضرت مولانا محمد الیاس نے پوری قوت سے تعلیم، تذکیرہ اور دعوت کو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## ترکیہ و احسان اور اکابر بلبغ

دین کا ایک نہایت اہم شعبہ، ترکیہ و احسان

دین کا ایک نہایت اہم شعبہ 'ترکیہ و احسان' بالفاظِ دیگر 'سلوک و تصوف' ہے۔ اس کے بغیر بندہ کامل دین کا مل نہیں ہوتا اور حلاوت ایمان نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے صحیح وقق ہونے کے بارے میں حضرت مولانا محمد منظور نعماں رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

"قریباً هزار سال بلکہ اس سے بھی زیادہ مت سے امتِ محمدیہ کے صالح ترین طبقے نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ 'نورِ یقین' اور 'رابط مع اللہ' یعنی 'احسانی نسبت' حاصل کرنے کے لئے صوفیائے کرام کا یہ طریقہ (جس کا نام سلوک و طریقت ہے) اصولاً صحیح اور نتیجتاً کامیاب ہے۔ کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ مشاہیر اولیاء امتِ مثلاً خواجہ معروف کرنی، بشر حافی، سری سقطی، شفیق بلخی، بازیزید بسطامی، جنید بغدادی، ابو بکر شبلی، شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ احمد رفاعی، شیخ ابو الحسن شاذلی، خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ بہاء الدین نقشبندی۔۔۔ اور پھر ہمارے اس دوسرے ہزارہ کی گذشتہ تین صد یوں میں خواجہ باقی باللہ، امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی اور ان کے خلفاء اور شاہ ولی اللہ دہلوی اور سید احمد شہید (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) اور ان جیسے ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد ہیں جو اپنے وقت میں اس 'نسبت' کے حامل، بلکہ

ایک ساتھ لیکر چلنے کی طرف توجہ فرمائی۔ امت میں یگانگت اور وحدت پیدا کرنے کا یہی واحد طریقہ تھا، جو اس کام کا اصل مقصد تھا۔ بلکہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے امت میں وحدت پیدا کرنے کو اپنی محنت کا اصل مقصد قرار دیا تھا۔ فرماتے ہیں۔۔۔

"اپنی اس تحریک کے ذریعہ ہم ہر جگہ کے علماء والہل دین اور دنیا داروں میں میں ملاب پ اور صلح و آشنا بھی کرنا چاہتے ہیں۔ نیز خود علماء اور اہل دین کے مختلف حلقوں میں الفت و محبت اور تعاون و یگانگت کا پیدا کرنا اس سلسلہ میں ہمارے پیش نظر، بلکہ ہمارا اہم مقصد ہے۔ اور یہ دنی دعوت ہی انشاء اللہ اس کا ذریعہ و سیلہ بنے گی"۔

(ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ ص ۳۹)

اس لئے ہمیں بہت سنبھل کر چلنا ہے تاکہ ہمارے کسی قول و عمل سے کسی قسم کا خلل اور انتشار پیدا نہ ہو۔ اور حضرت مولاناؒ کی توقعات کے مطابق یہ دعوت والا مبارک عمل ہی ان تمام شعبوں میں ربط و تعلق کا سبب و ذریعہ بن جائے۔

تو دعوت کے اصل اکابر کی وسعت قلبی کو اور ان کی منشاء و مقصود کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بلبغ کے ہمارے اکابر شلشہ (حضرت مولانا محمد الیاسؒ، حضرت مولانا محمد یوسفؒ اور حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحبؒ) نے دعوت کے اس عظیم کام کو کیسے سمجھا تھا اور اس کے ذریعہ کیا چاہا تھا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر یہ کتاب تحریر کی گئی ہے۔ اللہ کرے ہماری ان معروضات سے ہماری فکر و نظر کا رُخ صحیح ہو جائے ورنہ آج تک کی تمام مختتوں اور قربانیوں پر پانی پھر جانے کا اندر یہ شہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہم سب کے لئے "دعوت و بلبغ"، والے عظیم کام کی حقیقت کو اور اس کے صحیح خدو خال کو اور اس کی نزاکتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امین!

اللّٰهُمَّ أَرْنَا الْحَقَّ حَقًا وَأَرْزُقْنَا اِتَّبَاعَهُ وَأَرْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَأَرْزُقْنَا اِجْتِنَابَهُ

عبد ضعیف

قطب الدین ملا

بیگ کام

جمعہ ۲۳ ربیع الاولی ۱۴۳۳ھ

مطابق ۲۷ مریٰ ۲۰۰۸ء

اس راہ کے امام اور داعی ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے ایک ایک کی صحبت و تربیت سے اللہ کے ہزاروں لاکھوں بندوں کو یہ دولت حاصل ہوئی ہے۔ جو شخص ان سلسلوں سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان بزرگوں کو جو کچھ حاصل ہوا اسی راہ سے حاصل ہوا تھا۔ پس جس طریقہ نے امت محمدیہ میں اتنے کالین اور اس قدر اصحاب احسان و یقین پیدا کئے ہوں، جن کو بجا طور سے اس امت کا گل سر سبد کہا جاسکتا ہے، اس کے صحیح اور کامیاب و مقبول ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟” (دین و شریعت ص: ۲۳۶)

### دعوت و تبلیغ کا کام مدرسوں کا مخالف نہیں:

عام طور پر یہ اعتراض سامنے آتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا مبارک کام مدارس اور خانقاہی نظام کے خلاف ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جہاں تک مدارس کا تعلق ہے، خود بنگلہ والی مسجد نی دہلی (یعنی مرکز تبلیغ) میں مدرسہ کاشف العلوم چلتا ہے۔ اور ملک کے مختلف صوبہ جات میں کئی مدارس، اکابرین تبلیغ کے زیر سرپرستی چلتے ہیں۔ ہمارے قریب نیپالی (ضلع بیلگام) میں دارالعلوم نیپالی، کائنگ بیاند خود حضرت جی مولانا محمد انعام الحسن نے اپنے دست مبارک سے رکھا تھا۔ اور حضرت مولانا محمد یوسف پونوی اس کے روح رواں تھے۔ اور اب بھی اس کے چلانے والے سارے کے سارے وہ احباب ہیں جن کا گہر اعلق، دعوت و تبلیغ کی محنت سے ہے۔

**مولانا محمد یوسف صاحب کا ارشاد، ہم پڑھانے کو بنیادی کام سمجھتے ہیں**

ایک دفعہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب بجنوری نے حضرت جی (مولانا محمد یوسف) سے اپنی درسی مصروفیات کی شکایت کی اور عرض کیا کہ میں پڑھانے سے اس قدر تھک گیا ہوں کہ جی چاہتا ہے

کہ تھوڑے دنوں کے لئے کوئی آدمی مل جائے تو درسی ذمہ داری اس کے سپرد کر کے کچھ دن تبلیغ میں لگادوں تو حضرت جی نے فرمایا۔ ہرگز نہیں، تبلیغ سے پہلے بھی یہی کام کرنا ہے اور تبلیغ کے بعد بھی یہی کام کرنا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم مدرسوں کے مخالف ہیں، حالانکہ کہ یہ غلط ہے۔ ہم پڑھانے کو بنیادی کام سمجھتے ہیں اور حدیہ ہے کہ ہم خود پڑھاتے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پڑھانے کے کام کے ساتھ تبلیغ کو بھی لگائے رکھو۔” (ملفوظات و اقتباسات حضرت جی مولانا محمد یوسف ص: ۱۱۳-۱۱۴)

اس محنت کے ذریعہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب یہ چاہتے تھے کہ علوم دینیہ کے ایک ایک جز کی اہمیت و عظمت بھی دلوں کے اندر ہو۔

”ایک دفعہ علماء کے تعلیمی حلقات کے ختم پر فرمایا جس میں حضرت مولانا عبدالحق مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے کہ — ہم یہ نہیں چاہتے کہ بخاری پڑھانے والوں کو ”التحیات“ یاد کرنے پر لگادیں، مگر یہ ضرور چاہتے ہیں کہ التحیات یاد کرنے کی بخاری پڑھانے والوں کے نزدیک بھی انتہائی اہمیت ہو۔ اس لئے کہ یہ بھی حضور کے علوم میں سے ایک علم ہے۔ اسے غیرا ہم سمجھنے والا کہیں کا نہ رہے گا اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تعلیم کا یہ درجہ بھی ماہرین بخاری کی فگرانی میں ہو۔“

(تذکرہ حضرت جی مولانا محمد یوسف کا نامہ ص: ۵۲)

مندرجہ بالاطور سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان حضرات کے نزدیک تبلیغ محنت سے پورے دین کو اور دین کے ہر ہر جزو زندگی میں لانے کی بات تھی، جو اس وقت نظر وہ سے او جھل ہو رہی ہے۔

## دعوت و تبلیغ کا کام تصوف کا بھی مخالف نہیں

### فرائضِ نبوت:

اب رہا تصوف کا معاملہ — یہ تو فرائضِ نبوت سے ہے اس کا کیونکر انکار ہو سکتا ہے؟

”نبوت کے فرائض: ۱- دعوت و تلاوتِ کتاب ۲- تزکیہ قلوب و تربیتِ نفوس اور ۳- تعلیم کتاب و حکمت (سنن) ہیں۔

دیکھئے آیتے کریمہ **هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَنْذُوْا عَلَيْهِمْ أَيْتَهُ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ** (سورہ جمعہ، آیت ۲، پ ۲۸، ع ۱۱) ..... **يَنْذُوْا عَلَيْهِمْ أَيَاتِهِ** سے مراد جیسا کہ مفسرین نے تصریح کی ہے، دعوت بالقرآن ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت **-فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ** ۰

(سورہ ق، آیت ۲۵، پ ۲۶، ع ۱۷)

ترجمہ: (پس نصیحت دے ساتھ قرآن کے اس شخص کو کہ ڈرتا ہے ڈرانے میرے سے، موید ہے)۔ (تذکرہ شیخ ص: ۱۰)

تو دعوت، تعلیم اور تزکیہ یہ فرائضِ نبوت ٹھہرے۔ تمام اکابرین امت کا ان تینوں شعبوں سے برابر تعلق رہا ہے۔ یہاں اس وقت صرف یہ بتانا ہے کہ اس شعبہ تصوف سے اکابرین تبلیغ کا کتنا تعلق رہا ہے؟ اور وہ کون سی اساس و بنیاد ہے جس نے حضرت مولانا محمد الیاس (۱۳۰۳ھ - ۲۰ ربیع الاول ۱۳۶۳ھ، مطابق ۱۲ جولائی ۱۹۴۲ء) کی ذہنی ساخت و پرداخت میں کلیدی روپ ادا کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں ماضی کی طرف پلٹنا پڑیگا۔ ماضی کی اس تاریخ اور اس پس منظر کے دیکھے بغیر کوئی رائے قائم کرنا مستطاب نہ ہوگا۔

### نور ہدایت:

تو حید و ایمان کی وہ روشنی جس کے حامل — سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے، دور نبوی میں — حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے اور اسی روشنی کی وجہ سے وہ آسمان دنیا کے چکنے اور دملکتے ستارے بنے تھے اور جن کی اقتدار کو ہدایت کی روشنی کا معیار و انحصار قرار دیا گیا۔ اور جن کی زندگیوں کی تابنا کیوں سے آج بھی ظلمت کا اندر ہمیرا دور ہو سکتا ہے — وہ روشنی حجاز مقدس سے وطن غریب، دیار ہند تک بھی پہنچی۔ اور یہاں کے بلاشبہ کروڑوں اربوں لوگوں کے دلوں کو منور کر گئی۔

### اسلام پر فتنوں کی یورش:

لیکن گردشِ لیل و نہار کے ساتھ اس مسافر پر وہ وقت بھی آیا کہ — ”مقدس اسلام پر جب پورے ایک ہزار برس گذرے اور اس نے الف ثانی (ہزارہ دوم) میں قدم رکھا اس وقت خاص کر ہندوستان میں عرب کے اس مسافر پر ہر چار طرف سے فتنوں کی یورش تھی۔ ایک طرف سلطنت کا الحاد اور اس کی ہندو نوازی بلکہ ہندویت پرستی اس کو پاماں کر رہی تھی۔ دوسری طرف علماء سوء کی دیسیسے کاریاں اس میں رخنے ڈال رہی تھیں۔ اور تیسرا طرف ”متصرفہ باطنیہ“ کی ہوئی برستیاں اس کی روح کو مسخ کر رہی تھیں۔ اور لاوارث اسلام اس طرح اس ”تیلیٹ“ سے مغلوب کیا جا رہا تھا۔ اس کا ضعف و اضلال، اس کی غربت و کسپرسی انہا کو پہنچ چکی تھی۔“ (حضرت نہماں، تذکرہ مجدد الف ثانی ص: ۱۳۸)

### حضرت مجدد الف ثانی کی سرگرمیاں:

”یہ تھے وہ حالات جن کے درمیان مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا

گیا اور جن کی اصلاح و تبدیلی کا عظیم الشان کام آپ کے پروردگار گیا۔ اس کی طرف خود حضرت مجدد قدس سرہ نے بھی اپنے مکاتیب میں متعدد جگہ اشارے فرمائے ہیں۔ (تذکرہ مجدد الف ثانی ص: ۱۷۱)

اللہ تعالیٰ کو آپ سے ”احیائے ملت“ اور ”اقامتِ دین“ کا کام لینا تھا۔ جس کے بارے میں حضرت نعمانؓ تحریر فرماتے ہیں۔

”فی الحقيقة آپ کا اصل کام یہی تھا کہ اسلامی دنیا کی کایا پلٹ دیں اور حق جو باطل کے پردوں میں مستور ہو گیا تھا اس کو اصلی صورت اور اس کی اصلی شان میں دنیا کے سامنے رکھ دیں۔ کلمہ اللہ پھر غالب ہو اور کفر و بدعت کے غایظ بادل اسلام کے افق سے یکسر چھانٹ دئے جائیں۔

اللہ تعالیٰ کی ہزاراں ہزار حمتیں نازل ہوں آپ کی روح پاک پر کہ آپ نے مجددانہ عزیمت اور مجہادانہ جدوجہد کے ساتھ اس کام کو انجام تک پہنچایا اور دیکھنے والوں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جس کی کوئی امید نہ کی جاسکتی تھی۔ (ایضاً ص: ۱۳۲)

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ —

”اس مجدد دین و ملت نے کس طرح ان حد سے زیادہ بڑے ہوئے حالات کو سنبھالا اور بلا کسی مادی طاقت اور حکومتی اقتدار کے کن تدابیر سے پورے ملک کی فضائی کو بدلتے کر کھڈیا اور حتیٰ کہ خود حکومت میں بھی آپ سے آپ وہ انقلاب ہو گیا جو بظاہر صرف انقلابی ذرائع سے ہی ہو سکتا تھا بلکہ بسا اوقات زبردست ”انقلابی تحریکیوں“ سے بھی ایسا انقلاب رومناہیں ہوتا“۔ (ایضاً ص: ۱۳۲)

## حضرت مجدد الف ثانیؓ نے تصوف کی لائن سے ہی کایا پلٹ دی:

پھر ایک جگہ حضرت نعمانؓ تحریر فرماتے ہیں۔

”امام ربانی نے یہ سارا کام وقت کے ایک شخص اور صوفی کی حیثیت سے کیا اور اس سلسلہ تصوف ہی کو اپنی اس پوری مہم کا ذریعہ بنایا، جس کے خلاف زبانی اور قلمی جہاد کرنا آج کے بہت سے مجاهدینِ اسلام و قلم کا محبوب ترین مشغل ہے.....“ تجدید و احیاء دین کا کام حکومتی انقلاب کے سیاسی مخصوصوں اور پروگراموں کے بغیر بھی اور پوپولیٹکل پارٹیوں کے طرز کی کوئی دینی پارٹی بنائے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے۔ اور ایسا ہوا ہے کہ ”تجدد و احیاء دین“ کی پوری تاریخ میں اتنے کامیاب انقلاب کی مثال ملنی مشکل ہے۔ (تذکرہ مجدد الف ثانی ص: ۱۰-۱۱)

## مجد دانہ کوششوں کے ثمرات:

ان مجد دانہ کوششوں سے مرتب ہونے والے ثمرات کے بارے میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں۔

”ایک طرف اکبر کے تحت پر محی الدین اور نگ زیب عالمگیر متمکن ہوتا ہے، دوسری طرف حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے خلفاء و تلامذہ کا وہ سلسلہ وجود میں آتا ہے جو روحاںی اور باطنی طور پر اسی سلسلہ سے وابستہ اور منسوب ہے، اور جس نے اشاعت و ترویج کتاب و سنت، ان کی تفہیم و ترجمانی اور ان کے سلسلہ درس و تدریس، مدارس کے قیام، تزکیہ و تربیت باطنی، اصلاح عقائد و رسوم کے عظیم الشان کام، اور پھر آخر میں جہاد و سعی اعلاء کلمۃ اللہ کے ذریعہ نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں اسلام کو قائم اور شیر اسلام کو پھلتا پھولتا کر کھا بلکہ اس کو عالم اسلام میں دینی علوم (بالخصوص علم حدیث) اور فکر و

دعوتِ اسلامی کا مرکز بنادیا۔ (تاریخ دعوت و عزیمت چارمص: ۱۹۲)

اس سلسلہ میں آگے چل کر ممتاز ترین علماء و محدثین، ناشرین کتاب و سنت اور داعیان دین پیدا ہوئے۔ جو وہی مجددی فکر و جہد، اتباع سنت اور اخلاق و لٹھیت اپنے سینوں میں رکھتے تھے۔ اسی مجددی سلسلہ میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور سراج الہند شاہ عبدالعزیز دہلویؒ کے بعد ان حالات کو یکسر بدلتے کی تھنا میں مجاهدانہ و سرفراشانہ جذبات کے ساتھ شہید ہونے والے حضرت سید احمد شہیدؒ اور ان کے خلفاء سید عبد الرحیم دلائیؒ کے ذریعہ یہ جذبات درون سینہ، حضرت نور محمد جنگجویؒ تک پہنچے۔

### سلسلہ صابریہ چشتیہ کی کوششیں:

دوسری طرف ہندوستان کے طول و عرض میں ایمان و عمل کی بہار لانے میں سلسلہ صابریہ چشتیہ نے بڑا کام کیا۔ اور اس سلسلہ میں بڑے نامور مشارک، عارف و محقق و مصلح پیدا ہوئے۔ مثلاً حضرت احمد عبد الحق روڈلویؒ، حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہیؒ، حضرت شیخ محبت اللہ الہ آبادیؒ وغیرہ۔ پھر یہ سلسلہ حضرت نور محمد جنگجویؒ تک پہنچ جاتا ہے اور یہاں چاروں سلسلوں کا امتزاج ہو جاتا ہے۔

### غدر کے بعد کے حالات:

پھر غدر اور غدر کے بعد رونما ہونے والے حالات، سیاسی میدان میں شکست خودگی، مغربی تہذیب و تمدن کی یلغار، ملیٹ اسلامیہ کی بے دینی و جہالت، معاشی ابتری، یہ وہ حالات تھے جن میں ارتاداد کے پھوٹ پڑنے کا خطہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکنی (۱۲۳۰ھ-۱۳۲۱ھ) کے نالہ ہائے نیم شی، حضرت مولانا شیداحمد گنگوہیؒ (۱۲۲۲ھ-۱۳۲۳ھ) کی فکری بصیرت، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ (۱۲۸۷ھ-۱۲۹۵ھ) کی تعلیمی خدمات اور شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحبؒ (۱۲۶۸ھ-۱۳۳۹ھ) کی مجاهدانہ سرگرمیاں، ان ساری مساعی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔

## حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ اور ترکیہ و احسان

الیاسی فکر و مزاج پر اثر انداز ہونے والا پس منظر اور اہم عوامل:

”احیائے دین“ کے سلسلہ کا یہ طویل ترین باب ہے جس میں جذبہ حریت ہے، حیثیت دینی ہے، جہد و قربانیوں کی داستانیں ہیں۔ وہی سب کچھ تھا جو صحابہ کرامؐ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں۔ ان عظیم ہستیوں نے میدانِ عمل کو سرگرم رکھنے میں صحابہؐ کے ایسے ہی جذبات سے حرارت پائی تھی۔ یہ وہ ماحدوں تھا جس میں حضرت مولانا محمد الیاسؒ (۱۲۰۳ھ-۱۲۳۶ھ) نے آنکھیں کھو لیں۔ شخصیتیں نہ آسمان سے برستی ہیں نہ زمین سے اگلتی ہیں۔ حکمتِ خداوندی ان کو وجود بخشتی ہے۔ پھر ماحدوں کے اثرات اور پس منظر ان کی ذاتی ساخت، ان کے فکر و عمل اور ان کی تگ و دو میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔

”مولانا الیاسؒ“ نے جس خاندان میں آنکھیں کھو لیں وہ خاندان دینداری کا گھوارہ تھا۔ مردوں مرد، عورتوں کی دینداری، عبادت گزاری، شب بیداری، ذکر و تلاوت کے قصہ اور ان کے معمولات اس زمانہ کے پست ہمتوں کے تصور سے بلند ہیں..... اس وقت گھر کے باہر اور اندر کی مجلسیں اور صحبتیں حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے قصوں اور چرچوں سے گرم تھیں۔ ان بزرگوں کے واقعات مردوں اور عورتوں کی زبانوں پر تھے۔ مائیں اور گھر کی بیٹیاں بچوں سے طوٹے مینا کے قصوں کے بجائے یہی روح پرور واقعات سناتیں..... مولانا الیاس صاحبؒ نے

ایک روز مجھ (مولانا ابو الحسن علی ندوی) سے فرمایا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ سید صاحب<sup>ر</sup> کے حالات کا علم نہ ہوگا۔ آپ کی کتاب ”سیرت سید احمد شہید<sup>ر</sup>“ سے میری معلومات میں اضافہ نہیں ہوا۔

(حضرت مولانا محمد الیاس<sup>ر</sup> اور ان کی دینی دعوت ص: ۳۰-۳۹)

تو حضرت مولانا الیاس<sup>ر</sup> کو اپنے گھر کے ارد گرد کے ماہول میں مجددی، ولیٰ اور حضرت شہید<sup>ر</sup> والی فکر و نظر حاصل ہوئی اور ان کے جذباتِ روحانی و قربانی کی آیاری ہوئی اور —

”دین کی حیمت (جس نے آگے چل کر منظم شکل اختیار کر لی) آپ کی فطرت میں ودیعت تھی۔ دینی ماہول اور بزرگوں کے واقعات دروایات نے اس چنگاری کو ہوادی“۔ (ایضاً ص: ۳۲)

### گنگوہ کی صحبتوں کے اثرات:

مولانا الیاس<sup>ر</sup> کا لڑکپن کا زمانہ گنگوہ میں گزرا۔ وہاں کے بارے میں حضرت مولانا علی میاں تحریر فرماتے ہیں —

”گنگوہ اس وقت صلحاء و فضلاء کا مرکز تھا۔ ان کی اور خود حضرت مولانا رشید احمد صاحب<sup>ر</sup> کی صحبت اور مجلس<sup>ر</sup> کی دولت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ر</sup> کو شب و روز حاصل تھی۔ دینی جذبات کی پروش، نیز دین کی سمجھ اور اس کا سلیقہ پیدا کرنے میں ان کیمیا اثر صحبتوں اور مجلس<sup>ر</sup> کو جو دخل ہے، وہ اہل نظر سے بوشیدہ نہیں۔ مولانا کی دینی و روحانی زندگی میں اس ابتدائی ماہول کا فیض برابر شامل رہا۔ انسان کی زندگی میں مقام و ماہول کا اثر قبول کرنے کا جو بہترین زمانہ ہو سکتا ہے، مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ر</sup> کا وہ زمانہ گنگوہ میں گزرا۔ جب گنگوہ آئے تو دس گیارہ سال کے بچے تھے۔ جب ۱۳۲۳ھ میں مولانا گنگوہ<sup>ر</sup> نے وفات پائی تو

بیس سال کے جوان تھے۔ گویا دس برس کا عرصہ مولانا (گنگوہ<sup>ر</sup>) کی صحبت میں گزرا۔ (حضرت مولانا محمد الیاس<sup>ر</sup> اور ان کی دینی دعوت ص: ۵۳) علماء و صلحاء و مشائخ کی صحبت ہر دور میں موثر رہی ہے۔ انہیں صحبتوں سے حرارتِ ایمانی پیدا ہوتی ہے اور ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے کی استعداد اور حوصلہ ملتا ہے۔ گنگوہ کے اس زمانہ قیام میں آپ کو اور بھی متعدد حضرات علماء و صلحاء کی مجلس میں بیٹھنے اور ان کی باتیں سننے کے موقع ملتے تھے اور اس کا بڑا اہتمام تھا۔ آپ کے استاد، مربی اور بھائی مولانا یحییٰ صاحب<sup>ر</sup> (م-۱۴۰۰ھ قعده ۱۳۲۳ھ) تھے۔ مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ر</sup> فرمایا کرتے تھے —

”جب حضرت گنگوہ<sup>ر</sup> کے خاص فیض یافتہ اور تعلیم یافتہ، علماء گنگوہ آتے تو بعض اوقات بھائی میرا درس بند کر دیتے اور کہتے تمہارا درس یہ ہے کہ تم ان حضرات کی صحبت میں بیٹھو اور ان کی باتیں سنو۔“ (ایضاً ص: ۲۲)

### اکابر شخصیاتِ اربعہ کا اثر:

حضرت مولانا محمد الیاس<sup>ر</sup> کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہ<sup>ر</sup> کے علاوہ دیگر بزرگوں سے بھی حد درجہ نسبت تعلق و محبت تھی۔ اور وہ ان سے برابر استفادہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت علی میاں ندوی<sup>ر</sup> فرماتے ہیں —

”اس عرصہ میں دوسرے مشائخ اور مولانا گنگوہ<sup>ر</sup> کے دوسرے خلافاء سے عقیدت مندی اور صحبت و استفادہ کا تعلق برابر قائم رہا۔ شاہ عبد الرحیم رائے پوری<sup>ر</sup>، مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی<sup>ر</sup> اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی<sup>ر</sup> سے ایسا تعلق تھا کہ فرماتے تھے یہ حضرات میرے جسم و جان میں بے ہوئے تھے اور ان حضرات کو بھی مولانا کی امتیازی خصوصیت کی وجہ سے خصوصی محبت اور لحاظ تھا۔“ (ایضاً ص: ۳۹)

عظمیم انقلابی اقدامات کئے وہ باظا ہر خانقاہی نظام کے ذریعہ ہی انجام دے۔ اللہ تعالیٰ کو جس سے کوئی بڑا دینی کام لینا ہوتا ہے اس کو شروع ہی سے تصفیہ قلب، ترقیت نفس اور تعلق مع اللہ اور قبلی و روحانی قوت کے حاصل کرنے کے موقع فراہم کرتا ہے۔ اور چونکہ حضرت مولانا محمد الیاسؒ سے بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ عظیم انقلابی کام لینا تھا، اس لئے آپ کو بھی ایسے موقع میسر آئے۔ حضرت گنگوہیؒ، قطب الارشاد کے مقام پر فائز تھے ان کی توجہ اور دعا میں بھی رنگ لا کیں۔ حضرت مولانا محمد الیاسؒ کو ان سے بے حد محبت اور انسیت تھی۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں —

”مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یا العموم بچوں اور طالب علموں کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ فراغت اور تکمیل کے بعد اس کی اجازت ہوتی تھی۔ مگر مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے غیر معمولی حالات کی بناء پر اور ان کی خواہش و درخواست پر بیعت کر لیا۔“

(حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت ص: ۳۲)

۱۳۲۳ھ میں حضرت گنگوہیؒ کا وصال ہو گیا۔ ان کے وصال کے بعد آپ نے شیخ الہندؒ سے بیعت کی درخواست کی۔ شیخ الہندؒ نے آپ کو مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ (صفر ۱۴۲۶ھ - دسمبر ۱۸۵۲ء - ربیع الثانی ۱۳۲۳ھ) سے بیعت ہونے کو ارشاد فرمایا۔ چنانچہ آپ نے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ سے بیعت کی۔ اور انہیں کی نگرانی و رہنمائی میں منازل سلوک طے کئے۔

#### مجاہدہ و ریاضت:

۱۴۳۲ھ میں مولانا محمد یحییٰ صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے دو سال بعد مولانا محمد صاحب (حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے بڑے بھائی) نے بھی ربیع الثانی ۱۳۳۶ھ میں انتقال فرمایا۔ مولانا محمد صاحبؒ کی وفات کے

انہیں بزرگوں کی محبت کا نتیجہ تھا کہ طبیعت میں وہ سلکیت اور یکسوئی و مرافقہ کی ایک وہ کیفیت طاری رہتی جو عموماً کسی منتخب شخصیت کے ذریعہ بڑے کام سے پہلے ان کی زندگی کا وظیرہ ہوا کرتی ہے۔ مولانا علی میاں ندویؒ رقم طراز ہیں —

”گنگوہ کے قیام کے دوران میں حضرت مولانا شید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد زیادہ سکوت اور مرافقہ طاری رہتا تھا۔ شاید سارے دن میں کوئی ایک بات کرتے ہوں۔“

(حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت ص: ۳۸)

”نیز اس زمانہ میں نوافل کا بے حد ذور تھا۔ مغرب کے بعد عشاء سے کچھ پہلے تک نوافل میں مشغول رہتے۔ اس وقت آپ کی عمر ۲۵/۲۰ سال کے درمیان تھی۔“ (ایضاً ص: ۳۸)

**جدبہ حریت اور بیعت جہاد:**

آپ نے اپنے بھائی مولانا محمد یحییٰ صاحبؒ سے بھی تحصیل علم کیا۔ اور ۱۳۲۶ھ میں شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحبؒ کے حلقة درس میں شرکت کے لئے دیوبند تشریف لے گئے اور ترمذی و بخاری شریف کی سماعت کی۔ آپ کو حضرت شیخ الہندؒ سے بڑا تعلق تھا۔ ان کی مجاہدانہ و سرفروشانہ سرگرمیوں سے بڑے متاثر تھے۔ حضرت شیخ الہندؒ نے ہندوستان سے انگریزی حکومت کے خاتمه کے لئے ”تحریک ریشمی رومال“، جاری کر رکھی تھی۔ مگر مخالفوں کی مجری پر یہ خطوط پکڑے گئے جس کی وجہ سے آپ کو مالٹا جیل میں پانچ سال تک مصائب برداشت کرنے پڑے۔ حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے سینہ میں بھی مجاہدانہ جذبات موجز ن تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے شیخ الہندؒ کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی۔

**خانقاہی نظام سے واپسی:**

جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا ہے کہ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے جو

بعد آپ نظام الدین آگئے۔ نظام الدین کے قیام کے دوران حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> کے حالات کو بیان کرتے ہوئے مولانا ابو الحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں —

”یہ زمانہ مولانا کے بڑے مجاہدہ و ریاضت کا تھا۔ یہ ذوق موروٹی اور فطری تھا۔ نظام الدین کے قیام کے زمانہ میں اس کا زیادہ ظہور ہوا۔ خلوت و ریاضت کی طرف اس زمانہ میں خاص میلان تھا۔ حاجی عبد الرحمن صاحب راوی ہیں کہ عرب سرا کے چاہک حضرت نظام الدین اولیاء<sup>ؒ</sup> کی قدیم عبادت گاہ (ہمایوں کے مقبرہ کے جنوب میں، عبد الرحیم خان خانہ کے مقبرہ اور حضرت مرزامظہر جان جاناں رحمۃ اللہ کے شیخ حضرت سید نور محمد بدایونی کے مزار کے قریب) پھر وہ خلوت میں رہتے۔ کھانا دوپہر کا عموماً وہاں چلا جاتا، رات کا مکان پر آ کر کھاتے۔“ (حضرت مولانا محمد الیاس<sup>ؒ</sup> اور ان کی دینی دعوت ص: ۲۰)

## دینی حیثیت:

کسی رجل کارکی کرنے کی جو عمر ہوتی ہے، اس عمر میں حضرت مولانا محمد الیاس<sup>ؒ</sup> جب پہنچ تو ان کے سامنے وہی ناگفته حالات، وہی خطرات، وہی باطل شورشیں، جس کا سامنا حضرت مجدد الف ثانی<sup>ؒ</sup> کو اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی<sup>ؒ</sup> کو اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی<sup>ؒ</sup> و حضرت مولانا شریڈ احمد گنگوہی<sup>ؒ</sup> کو اپنے اپنے وقت میں کرنا پڑتا تھا، قریباً اسی طرح کا منظر حضرت مولانا الیاس<sup>ؒ</sup> کے سامنے تھا۔

”مولانا (الیاس<sup>ؒ</sup>) کی فطرت میں دین کی حیثیت وغیرہ کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ان کی اس دعوت کی ایک بڑی محرك طاقت اور ان کی اس سوز و درودمندی اور بیقراری کی ایک بڑی وجہ جوان کو کسی کل اور کسی پل چین نہیں لینے دیتی تھی، دین کا یہی بڑھتا ہوا تنزل و انحطاط اور کفر کا روز افزود غلبہ و اقتدار تھا جس کو ان کی حساس اور بیدار فطرت اور ان کا غیور

مزاج ایک لمحے کے لئے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔“

(حضرت مولانا محمد الیاس<sup>ؒ</sup> اور ان کی دینی دعوت ص: ۲۰۹)

## جهد و محنت کے مقاضی میدان:

مغربی استعماریت، ہندو قومیت کی احیائی تحریکیں، تیز رفتاری کے ساتھ بدلتے ہوئے ملک کے سیاسی حالات اور پھر مسلمانوں کی زبوبی حالتی۔۔۔ کئی میدان تھے جہد و محنت، فکر و کاوش کے مقاضی۔۔۔ ان حالات میں چوڑھے جنگ اور ان حالات سے نبرآزمہ ہونا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن ان حالات میں خدا کی مشکیت اور حکمت بھی کام کر رہی تھی۔ غیر مسلم عیسائی اور ہندی فرقوں سے مناظرے اور اسلامی دعوت کی کوششیں بھی چل رہی تھیں۔ اس موقع پر حاجی عبد الرحمن صاحب کی کوششوں کا ذکر مناسب ہوگا کہ عام طور پر ان کی سرگرمیوں سے واقفیت نہیں ہے۔۔۔

” حاجی صاحب اثاؤڈ (میوات)<sup>ؒ</sup> کے ایک غیر مسلم بنیا گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں خواب میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور مولانا محمد صاحب کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ نظام الدین کے مدرسہ میں مولانا محمد صاحب سے قرآن اور دین کی تعلیم حاصل کی۔ مولانا خلیل احمد صاحب<sup>ؒ</sup> سے بیعت کی۔ مولانا محمد صاحب کے زمانہ میں ان کے معتمد خاص اور ان کے دستِ راست رہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> کے تمام دینی کاموں میں ان کے قدیم ترین رفیق و معاون تھے۔ مولانا ان کے متعلق نہایت بلند کلمات فرماتے تھے اور اپنی تحریک کا روح رواں سمجھتے تھے۔ آپ میوات کے حکیم و عارف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی بڑی دولتیں نصیب فرمائی تھیں۔ آپ کا اصلی ذوق غیر مسلموں میں بنتا تھا۔ جس میں آپ کو ملکہ خاص تھا۔ ہزار سے اوپر آدمی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔

### امت کی اصل بیماری

فرمایا۔۔۔ ہمارے نزدیک اس وقت امت کی اصل بیماری دین کی طلب و قدر سے ان کے دلوں کا خالی ہونا ہے۔ اگر دین کی فکروں طلب ان کے اندر پیدا ہو جائے اور دین کی اہمیت کا شعور و احساس ان کے اندر زندہ ہو جائے تو ان کی اسلامیت دیکھتے سنبھر ہو جائے۔ ہماری اس تحریک کا اصل مقصد اس وقت بس دین کی طلب و قدر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے نہ کہ صرف فلمہ اور نمازوں پر تقدیح و تلقین۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ ص ۷۷)

### تحریک کا اصل مقصد

امت کے اندر دین کی طلب پیدا کر کے پورے ہی دین سے امت کو وابستہ کرنا یہ بات حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے پیش نظر ہے۔ فرماتے ہیں۔۔۔ ہماری اس تحریک کا اصل مقصد ہے مسلمانوں کو ”جیمیں ماجاء به النبی“، سکھانا (یعنی اسلام کے پورے علمی و عملی نظام سے امت کو وابستہ کر دینا) یہ تو ہے ہمارا اصل مقصد۔ رہی قافلوں کی یہ چلت پھرت اور تبلیغی گشت، سو یہ اس مقصد کے لئے ابتدائی ذریعہ ہے اور کلمہ و نماز کی تلقین و تعلیم گویا ہمارے پورے نصاب کی ”الف، بے، تے“ ہے۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ ص ۳۲)

### ظاہر و باطن کی قوتیں کا اصل مصرف

امت میں دین کی طلب پیدا کرنا اس کے لئے ظاہر و باطن کی قوتیں کو صرف کرنا یہ بات ہمیشہ پیش نظر ہی۔ فرماتے ہیں۔۔۔ میں نے یہ طے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر و باطن کی جو قوتیں عطا فرمائی ہیں ان کا صحیح مصرف یہ ہے کہ ان کو اسی کام میں لگایا جائے جس

سنگار میں نو مسلموں کا ایک مدرسہ قائم کیا جس سے اولاد کی طرح تعلق تھا۔ میوات کے رسوم کی اصلاح آپ کا کارنامہ ہے۔ ربیع الثانی ۱۴۲۳ھ میں انتقال فرمایا۔۔۔ (حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی ربوغت، ص ۵۹-۶۰)

بدلتے سیاسی حالات میں ایک الگ آزاد اسلامی حکومت کی حمایت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہے۔ اور ہندو مسلمانوں اور ہند میں سرمایہ ملت کی حفاظت کے لئے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدینیؒ اپنی پوری جمعیت کے ساتھ سرگرم عمل تھے۔ عیسائیوں اور ہندو احیائی تنظیموں سے مناظرے کر کے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ شکست فاتح دے چکے تھے۔ علم دین کی حفاظت و ترویج کا کام دار العلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور اور ندوۃ العلماء لکھنؤ سے ہو رہا تھا۔ ان مخذوش حالات میں مسلمانوں کی توبہ و انبات اور جموع الی للہ کی پرسوز کوششیں حضرت مولانا عبدال قادر رائے پوریؒ اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ اپنی اپنی خانقاہوں کے ذریعہ فرماتے ہیں۔

### عمومی محنت کی طرف توجہ:

لیکن عام مسلمانوں میں دین کی طرف رغبت اور ان کی دینی بیداری کا اور ان کے اندر دین کی اہمیت کا احساس اور طلب جگانے کا کام باقی تھا۔ جس کی طرف روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولانا محمد الیاسؒ گواشراہ ہوا اور آپ نے تعمیل امر میں اس عمومی محنت کا آغاز کیا۔

### عمومی محنت کے ذریعہ کیا چاہا جا رہا تھا؟

محنت کیلئے مقصد پیش نظر ہوتا ہے۔ اس کے لئے ”امت کی اصل بیماری کیا ہے“، یہ معلوم کرنا پڑتا ہے۔ بڑے غور و فکر کے بعد حضرت مولانا محمد الیاسؒ نے اصل بیماری کی تشخیص کی تھی۔

میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوتیں ضرف فرمائیں اور وہ کام ہے اللہ کے بندوں کو اور خاص کر غافلوں اور بے طلبیوں کو اللہ کی طرف لانا اور اللہ کی بالتوں کو فروغ دینے کے لئے جان کو بے قیمت کرنے کا رواج دینا۔ بس یہی ہماری تحریک ہے اور یہی ہم سب سے کہتے ہیں۔  
یہ کام اگر ہونے لگے تواب سے ہزاروں گئے زیادہ مدرسے اور ہزاروں گئے ہی زیادہ خانقاہیں قائم ہو جائیں بلکہ ہر مسلمان مدرسہ اور خانقاہ ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹی ہوئی نعمت اس عمومی انداز سے بننے لگے جو اس کے شایانِ شان ہے۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ ص ۱۳۷)

### دین اور دین کی محنت کے بارے میں فکرِ الیاسی کا خلاصہ:

آپ اپنی اس محنت کے ذریعہ ”عباداتِ دینیہ“ کو پوری طاقت سے امت میں راجح کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے ”عبادات کو قطرہ اور دعوت کو سمندر“ کہہ کر عبادات کی اہمیت سے صرف نظر نہیں کیا بلکہ عبادات کا جو مقام دین میں ہے اس کی حقیقت کی طرف متوجہ کر کے اس کی دعوت کی ترغیب دی۔ ان کے نزدیک عبادات کی جو اہمیت تھی اس کا اندازہ ذیل کے اقتباس سے ہوگا۔

”ایک دوست کو جو غالباً مسلمان اہل حرف و اہل صنعت کی دینی اصلاح و ترقی کے خواہشمند تھے تحریر فرمایا۔ اس بندہ ناچیز کی نظر کے اندر وہ تبلیغ جس کے لئے آپ کو بھی بلا یا تھا اور خود بھی کوشش ہے، اس کا منتها دنیا کے مسلمانوں میں صنعت و حرفت، زراعت و تجارت کو شریعت کے ماتحت اور شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ تبلیغ کی ابجد اور الف، ب، ت، ”عبادات“ سے ہے۔ اور عبادات کے کمال کے بغیر ہرگز معاشرت اور معاملات تک اسلامی امور کی پابندی نہیں پہنچ سکتی۔ سو مختصین کی صحیح ایکیم یہ ہونی چاہئے کہ تبلیغ کی ابجد الف، ب، ت یعنی ”عبادات“ کو دنیا میں

پھیلانے کی ایکیم شروع کر کے اس کی منتها پر پہنچانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ معاملات و معاشرت اور باہمی اخلاق کی اصلاح و درستی کے ذریعہ سیاست تامہ تک رسائی ہوگی۔ اس کے سوا کسی جزئیات میں پڑ جانا اپنے سرمایہ درد کو شیطان کے حوالہ کر دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

ترم نہ رسی بہ کعبہ اے اعرابی  
کیس رہ کہ می روی بترکتان است“

(حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت۔ ص ۲۶۸-۲۶۹)

فرمایا۔ ہماری تبلیغ میں کام کرنے والوں کو تین طبقوں میں تقسیم ہی مقاصد کے لئے خصوصیت سے جانا چاہئے۔

(۱) علماء اور صلحاء کی خدمت میں دین سیکھنے اور دین کے اچھے اثرات لینے کے لئے۔

(۲) اپنے سے کم درجہ کے لوگوں میں دینی بالتوں کو پھیلانے کے ذریعہ اپنی تکمیل اور اپنے دین میں رسوخ حاصل کرنے کے لئے۔

(۳) مختلف گروہوں میں ان کی متفرق خوبیاں جذب کرنے کے لئے۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ ص ۵۷)

### چہاڑنگانی میں الیاسی شمشیریں:

لیکن ان کے سامنے مجددی ہمہ گیر اصلاح و تجدید کی سرگرمیاں، حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور ان کے خاندان کی خدمات، سید احمد شہیدؒ و مولانا محمد اسماعیل شہیدؒ (م-۲۰۷۰ھ مطابق ۱۹۹۸ء) کی سرفروشیاں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی شب بیداریاں اور نالہ ہائے نیم شی اور مردم سازیاں، حضرت نانو تویؒ کا علمی رسوخ اور گہرائیاں، قطب الارشاد حضرت مولانا شرید احمد گنگوہیؒ کی بصیرت و بصارت کی جلوہ تابانیاں اور حضرت مولانا خلیل احمد سہار پوریؒ کا اضطراب

و بے چینیاں — یہ سب کچھ حضرت مولانا موسیٰؒ کی نظر وہیں کے سامنے تھا۔ ان ہی اسلاف رباني سے آپ کو دینی حمیت وغیرت، جذبہ اصلاح حال، ذوق دعا و عبادت، ذکر و شغل کی حقیقت، اکابر کی صحبتوں کے برکات و ثمرات، اتباع سنت اور سوز دروں کا اضطراب، اللہ تعالیٰ سے قوی تعلق و نسبت، آقائے مدینی سے حد درجہ عشق و محبت، صحابہ کرامؐ کی جدوجہد کے نمونے اور روحانی قوت و طاقت — یہ تمام دولتیں گویا ورشہ میں ملی تھیں۔ ان صفاتِ عالیہ کے بغیر کوئی دینی کام انجام نہیں پاتا۔

اسلاف سے بے اعتمادی فتنوں کے دروازے کھول دیتی ہے:

ان صفات کے بغیر اور اس دولت باطنی و روحانیت کے بغیر بیسویں صدی کے نصف اول میں جو بھی تحریکیں اٹھیں، ان سے کام تو کچھ ہونہ سکا بلکہ مزید فتنوں کے دروازے کھل گئے۔ ان تحریکوں کی وجہ سے مسلمانوں میں اکابر و مشائخ سے بے دلی و بے اعتمادی، ہر صدی کی مجددانہ و اصلاحی کوششوں کی ناقدری پیدا ہوئی۔ اور ترکیہ و تصوف کی لائن تو ان کے زدیک زہر بہاہل سے زیادہ خطرناک تھی جس کو بقول ان کے، اسلاف نے تریاق سمجھ کر امت کو پلایا تھا۔ ان بالتوں اور کوششوں کا انجام اہل نظر کے سامنے ہے — یہ سارے مناظر بھی حضرت مولانا محمد موسیٰؒ کی نظر وہیں کے سامنے تھے۔ انہوں نے اپنے کو اسلاف سے الگ نہیں کیا۔ اور ان کی کوششوں سے صرف نظر نہیں کیا بلکہ انہیں کے فکر و جہد کے محور پر اپنی ”دعوت اصلاح“ کی بنیاد رکھی۔ اور جو دولتیں انہوں نے سلاسلِ اربعہ کے مشائخ کی بالخصوص سلسلہ چشتیہ کی حاصل کی تھیں ان کو اپنی ”دعوت“ میں شامل کر کے اس کو عام کرنے کی سعی بلیغ فرمائی۔ ”پروفیسر خلیق احمد نظامی نے ”تاریخ مشائخ چشت“ میں صحیح لکھا ہے کہ — گذشتہ صدی میں کسی بزرگ نے چشتیہ سلسلہ کے اصلاحی اصولوں کو اس طرح جذب نہیں کیا جس طرح مولانا محمد موسیٰؒ نے کیا تھا۔“

(تاریخ دعوت و عزیزیت جلد سوم ص ۲۹)

اس بارے میں خود ہی فرماتے ہیں —

”اس سلسلہ کا ایک اصول یہ ہے کہ آزاد روی اور خود رائی نہ ہو، بلکہ اپنے کو ان بڑوں کے مشوروں کا بانڈر کھو جن پر دین کے بارے میں ان اکابر مرحو میں نے اعتماد ظاہر کیا، جن کا اللہ کے ساتھ خاص تعلق معلوم و مسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرامؐ کا عام معیار یہی تھا کہ وہ انہیں اکابر پر زیادہ اعتماد کرتے تھے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص اعتماد فرماتے تھے۔ اور پھر بعد میں وہ حضرات زیادہ قابل اعتماد سمجھے گئے جن پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اعتماد فرمایا تھا۔ دین میں اعتماد کے لئے بہت تیقظ کے ساتھ انتخاب ضروری ہے، ورنہ بڑی گمراہیوں کا بھی خطرہ ہے۔“ (ملفوظات حضرت مولانا محمد موسیٰؒ ص ۱۶۰)

پھر ایک مرتبہ فرماتے ہیں —

میری حیثیت ایک عام مؤمن سے اوپنی نہ سمجھی جائے، صرف میرے کہنے پر عمل کرنا بددینی ہے۔ میں جو کچھ کہوں اس کو کتاب و سنت پر پیش کر کے اور مخدو غور و فکر کر کے اپنے ذمہ داری پر عمل کرو، میں تو بس مشورہ دیتا ہوں۔

فرمایا — حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ ”تم نے میرے سر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، تم سب میرے اعمال کی گنگانی کیا کرو۔“

میری بھی اپنے دوستوں سے بڑے اصرار اور الحاح سے یہ درخواست ہے کہ وہ میری گنگانی کریں، جہاں غلطی کروں وہاں ٹوکیں اور میرے رُشد و سداد کے لئے دعا میں بھی کریں۔

(ملفوظات حضرت مولانا محمد موسیٰؒ ص ۱۶۹)

## حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور سلوک و طریقت

اوپر یہ بات آگئی ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاسؒ نے چشتیہ سلسلہ کے اصولوں کو اپنی محنت میں جذب کیا ہے۔ اس طرح کی ہمت و جرأت وہی کر سکتا ہے جو سلوک و طریقت کے روزے سے آشنا ہو۔ آپ سلوک و طریقت کے ماہر اور اس کی غرض و غایت کو کما حقہ سمجھنے والے تھے اور ایک طرح سے غور کیا جائے تو پتہ چلا کہ سلوک و طریقت کی غرض و غایت، تبلیغ کی محنت سے مختلف نہیں ہے۔ پھر جو چیز عوام میں چلانی ہو اس کا آسان اور سہل الحصول ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت مولاناؒ کے نزدیک سلوک و طریقت ضروری بھی تھی اور آسان بھی۔ فرماتے ہیں —  
جو چیز دین میں جس درجہ ضروری ہوگی وہ اسی درجہ میں سہل اور آسان ہونی چاہئے۔ پس تصحیح نیت اور اخلاص اللہ چونکہ دین میں نہایت ضروری ہے بلکہ وہی سارے امور دین کی روح ہے اس لئے وہ بے حد سہل ہے۔ اور یہی ”اخلاص اللہ“ چونکہ سارے ”سلوک“ اور ”طریق“ کا حاصل ہے اس لئے معلوم ہوا کہ سلوک بھی بہت آسان چیز ہے۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ ص ۱۵)

پھر اس کی غرض و غایت کے بارے میں فرماتے ہیں —  
طریقت کی خاص غایت ہے اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کا مرغوب طبعی اور نوائی کا مکروہ طبعی ہو جانا (یعنی ایسی کیفیت پیدا ہو جانا کہ احکام و اوامر الہی کے بجالانے میں لذت و فرحت حاصل ہو اور نوائی یعنی ممنوعات کے پاس جانے سے اذیت اور کراہت ہونے لگے) یہ تو ہے طریقت کی غایت باقی جو کچھ ہے (یعنی خاص اذکار و اشغال مخصوص قسم کی ریاضات وغیرہ) سو وہ اس کی تحریک کے ذرائع ہیں لیکن اب بہت سے لوگ ان ذرائع ہی کو اصل طریق سمجھنے لگے۔

(ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ ص ۱۴-۱۵)

یہ ہر دور کی بیماری رہی ہے کہ لوگ ذرائع کو مقاصد کا درجہ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کو اس بات کا بڑا فکر رہتا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اور چلت پھرت اسی کو کہیں اصل اور مقصد قرار نہ دیا جائے اور دین کے زندگی میں لانے کا وہ مقصد جس کو اوپر کے سطزوں میں حضرت مولاناؒ کے ارشادات کی روشنی میں تحریر کیا گیا ہے، اس سے کہیں صرف نظر ہونے نہ پائے۔ حضرت مولانا محمد الیاسؒ فرماتے ہیں —

آج کل دین کے باب میں یہ غلط فہمی نہایت عام ہو گئی ہے کہ مبادی کو غایات کا اور ذرائع کو مقاصد کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اگر غور کرو گے تو معلوم ہو گا کہ دین کے تمام شعبوں میں یہ غلطی ہنس گئی اور ہزاروں خرابیوں کی یہ جڑ ہے۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ ص ۸۸)

### سلسلہ بیعت:

طریقت کا پہلا قدم، بیعت ہے۔ چونکہ میوات آپ کی مسامی کا میدان اول تھا۔ وہاں پر آپ نے اپنی توجہات مرکوز فرمائیں۔ میوں قوم کا تعلق بہت شروع سے حضرت مولاناؒ کے خاندان سے تھا۔ آپ کی آمد و رفت بھی میوات میں رہی۔ اور لوگ بکثرت آپ کے سلسلہ میں منسلک ہوتے رہے۔ آپ مشائخ چشتیہ صابریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جس میں حضرت مجدد کا مجددانہ رنگ بھی شامل تھا۔ تبلیغی کام کے آغاز کے بعد بھی یہ بیعت کا سلسلہ برابر چلتا رہا۔ یہاں تک کہ آپ کی وفات تک باقی رہا۔ اور وفات سے پہلے آپ نے چند حضرات کو خلافت و اجازت بیعت بھی عطا فرمائی۔ اس کا ذکر آگے آرہا ہے۔

”خلافت“ ایک امانت ہوتی ہے۔ اس کو اس کے اہل کی طرف پہنچانا ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داریوں کو پہنچانا ہوتا ہے۔ ایک موقع پر اپنے صاحبزادہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحبؒ سے فرمایا —

**فرمایا۔** علم سے عمل پیدا ہونا چاہئے، اور عمل سے ذکر پیدا ہونا چاہئے جبھی علم علم ہے اور عمل عمل ہے۔ اگر علم سے عمل پیدا نہ ہو تو سر اسرار ظلمت ہے۔ اور عمل سے اللہ کی یادوں میں نہ پیدا ہوئی تو پھر چھس پھس ہے اور ذکر بلہ علم بھی فتنہ ہے۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس ص ۲۲)

پھر ایک موقع پر فرمایا۔

دو چیزوں کا مجھے بڑا فکر ہے ان کا اہتمام کیا جائے۔ ایک ذکر کا کہ اپنی جماعت میں اس کی کمی پار ہاں ان کو ذکر بتالیا جائے۔ دوسرا اہل اموال کو مصرفِ زکوٰۃ سمجھایا جائے۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس ص ۲۱)

ایک اور موقع پر فرمایا۔

ہماری تبلیغ میں علم و ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ بدون علم کے نہ عمل ہو سکے نہ عمل کی معرفت، اور بدون ذکر کے علم ظلمت ہی ظلمت ہے اس میں نور نہیں ہو سکتا، مگر ہمارے کام کرنیوالوں میں اس کی کمی ہے۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس ص ۲۶)

### علم و ذکر کے بغیر، فتنہ و خلافت کا اندیشہ

ایک دن بعد نماز فجر جب کہ اس تحریک میں عملی حصہ لینے والوں کا نظام الدین کی مسجد میں بڑا مجمع تھا اور حضرت مولانا کی طبیعت اس قدر کمزور تھی کہ بستر پر لیٹے لیٹے بھی دو چار لفظ باؤ اذنیں فرماسکتے تھے تو اہتمام سے ایک خاص خادم کو طلب فرمایا اور اس کے واسطے سے اس پوری جماعت کو کہلوایا کہ — آپ لوگوں کی یہ ساری چلت پھرت اور ساری جدوجہد بے کار ہو گی اگر اس کے ساتھ علم دین اور ذکر اللہ کا پورا اہتمام آپ نے نہیں کیا (گویا یہ علم و ذکر دو بازو ہیں جن کے بغیر اس فضائیں پرواز نہیں کی جاسکتی) بلکہ سخت خطرہ اور قوی اندیشہ ہے کہ

”میرا تمہارا معاملہ کھیل ہو کر نہ رہ جائے۔ اہل اللہ کی طرف سے جو چیز ملا کرتی ہے، وہ حق ہوتی ہے۔“ (آپ بیت ۳-۴، ص ۲۰۹)

**مولانا محمد الیاسؒ کا شیخ الحدیث کو بیعت کرنے کا حکم:**

اس لئے خلافت و اجازت کے ملنے کے بعد بیعت کے سلسلہ کو جاری رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ امر کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو گا کہ —

حضرت سہارپوریؒ کی طرف سے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ (۱۰ رمضان ۱۳۱۵ھ- یکم شعبان ۱۴۰۲ھ، ۲۲ مریضی ۱۹۸۲ء) کو اجازت ملنے کے بعد بھی ”حضرت شیخ نے عرصہ تک بیعت لینے سے پہلو تھی کی اور جو کوئی اس نیت سے آتا اس کو دوسرے مشائخ سے بیعت کرتے۔ بالآخر حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے حکم فرمانے سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ اور ان ہی کے حکم سے سب سے پہلے آپ نے کاندھلہ میں اپنے خاندان کی مستورات کو بیعت کیا۔“ (تذکرہ شیخ ص ۳۱)

### دعوت و تبلیغ اور علم و ذکر کا ربط و تعلق:

بیعت کے بعد ذکر و اذکار کر کرے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاسؒ کام کرنے والوں کو اس دعوت والی محنت میں علم و ذکر کے اہتمام کی تاکید فرماتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ ان دو چیزوں کے اہتمام کے بغیر ہماری محنت ایک آوارہ گردی ہو کر رہ جائے گی۔ اور اپنی فکر و کرب کا اظہار بھی فرماتے تھے کہ مجھے اپنے کام کرنے والوں میں اس کی بڑی کی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کے نزدیک علم و ذکر کی اور اہل علم و اہل ذکر کی اتنی اہمیت تھی کہ دعوت کے ذمہ دار (امیر) طے کرنے میں بھی اہل ذکر کو ترجیح دیتے تھے۔ مولانا محمد یوسف صاحبؒ کی امارت کے سلسلہ میں یہ بات آگے آرہی ہے۔ علم و ذکر کے بارے میں آپ کی فکر مندی کے سلسلہ میں چند ملفوظات ذیل میں پیش کئے جا رہے ہیں۔

اگر ان دو چیزوں کی طرف سے تغافل برتا گیا تو یہ جدوجہد مبارکہ افتنہ اور ضلالت کا ایک نیادر و ازہ نہ بن جائے۔ دین کا اگر علم ہی نہ ہو تو اسلام و ایمان محض رسمی اور اسکی ہیں، اور اللہ کے ذکر کے بغیر اگر علم ہو بھی تو وہ سراسر ظلمت ہے اور علیٰ بذراً اگر علم دین کے بغیر ذکر کر لئے تو اس میں بھی بڑا خطرہ ہے۔ الغرض علم میں نور ذکر سے آتا ہے اور بغیر علم دین کے ذکر کے حقیقی برکات و ثمرات حاصل نہیں ہوتے، بلکہ با اوقات ایسے جاہل صوفیوں کو شیطان اپنا آکہ کار بنا لیتا ہے۔ لہذا علم اور ذکر کی اہمیت کو اس سلسلہ میں کبھی فراموش نہ کیا جائے اور اس کا ہمیشہ خاص اہتمام رکھا جائے، ورنہ آپ کی یہ تبلیغی تحریک بھی بس ایک آوارہ گردی ہو کر رہ جائے گی، اور خدا نکرہ آپ لوگ سخت خسارہ میں رہیں گے۔

(حضرت مولانا کا مطلب اس ہدایت سے یہ تھا کہ اس راہ میں کام کرنے والے، تبلیغ و دعوت کے سلسلہ کی محنت و مشقت، سفر و ہجرت اور ایثار و قربانی ہی کو حاصل کا ممکن سمجھیں، جیسا کہ آج کل کی عام ہوا ہے، بلکہ دین کے تعلیم و تعلم اور ذکر اللہ کی عادت ڈالنے اور اس سے تعلق پیدا کرنے کو اپنا اہم فریضہ سمجھیں۔ به الفاظ دیگر ان کو صرف ”سپاہی“ اور ”والاعظیر“ بنانا نہیں ہے بلکہ طالب علم دین اور ”اللہ کا یاد کرنے والا بندہ“ بھی بننا ہے)۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ ص ۳۹-۴۰)

علم و ذکر کے بغیر یہ تحریک سراسر مادیت ہے

آپ نے اپنے آخری ایام میں علم و ذکر کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے۔ حضرت علی میاں آپ کے آخری ایام کے حالات قلمبند کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

”ان دنوں میں چند باتوں کا زندگی بھر سے زیادہ اہتمام رہا۔

اول اور سب سے زیادہ علم و ذکر کی ترغیب و تاکید، اس تصور سے کہ یہ کام عام عصری تحریکات کی طرح محض ایک بے روح ڈھانچہ، قواعد و ضوابط کا مجموعہ اور ایک مادی نظام بن کر نہ رہ جائے۔ آپ برابر لرزائ ترساں رہتے تھے اور طبیعت پر اس کا ایک بوجھ تھا۔ بار بار اس سے ڈراتے تھے، بار بار علم و ذکر کے اہتمام کی تاکید فرماتے تھے۔ بار بار کہتے اور کہلواتے تھے کہ علم و ذکر اس گاڑی کے دو پیٹے ہیں جن کے بغیر یہ گاڑی چل نہیں سکتی۔ دو بازو ہیں جن کے بغیر اس کی پرواز نہیں۔ علم کے لئے ذکر اور ذکر کے لئے علم کی ضرورت ہے۔ علم، بغیر ذکر کے ظلمت ہے۔ ذکر، بغیر علم کے فتنہ ہے۔ اور یہ تحریک و نظام ان دونوں کے بغیر سراسر مادیت ہے۔“ (حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت ص ۱۸۵ و ۱۸۶)

### ذکرِ لسانی و فلی

آپ ذکرِ لسانی و فلی کو بھی بیکار نہیں سمجھتے تھے۔ آپ کا مطلع نظر اس بارے میں کیا تھا اس کو مولانا ابو الحسن علی ندویؒ کی ذیل کی تحریر میں پڑھئے۔

”ذکرِ لسانی و فلی کو بھی مولانا کے نزد یہک دین کی جدوجہد اور حرکت و سعی کے ساتھ خصم کرنے کی خاص ضرورت ہے۔ یہی صحابہ کرامؓ کی زندگی کی ساخت تھی کہ وہ دین کی دعوت و جہاد اور دین کے فروع کے لئے سعی و عمل کے ساتھ ذکر کو خصم کرتے تھے اور یہی اب بھی ہونا چاہئے۔ ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں۔“

حق تعالیٰ کے قرب اور اس کی کامل رضا کا سہل اور اقویٰ وسیلہ سمجھ کر ذکر میں مشغول ہوتے ہوئے اور سر بخود ہو کر دعاوں کی کثرت کرتے ہوئے آپ اس کام کو کرتے رہیں۔ اور اسی طرح کرنے کی سب کو تعلیم دیتے رہیں۔ ذکر اور دعا کی کثرت اس کا پہیا ہے اور اس کی روح ہے۔“

ایک بار فرمایا۔ میں ابتداء میں اس طرح ذکر کی تعلیم دیتا ہوں  
ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ اور تیرا کلمہ (سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ  
وَلَا إِلٰهَ إِلٰهُ اللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلٰهٌ بِاللّٰهِ) اور صبح  
و شام سوبار درود شریف واستغفار و تلاوت قرآن مع تصحیح قرأت اور  
نوافل نیں تہجد کی تاکید اور اہل ذکر کے پاس جانا۔ علم بدون ذکر کے  
ظلمت ہے اور ذکر بدون علم کے بہت سے فتنوں کا دروازہ ہے۔

(ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ ص: ۵۰-۵۱)

پھر آگے بڑھنے والوں کو بارہ تسبیح بھی بتا دیتے تھے۔ اور ذی استعداد  
حضرات کو ”پاس انفاس“ کی بھی تعلیم دیتے تھے۔

ذکر، مشائخ کی نگرانی میں ہو

حضرت مولانا کواس بات کا بھی فکر رہتا تھا کہ ذکر بڑوں سے پوچھ کر ان  
کی نگرانی میں کیا جائے۔

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی تحریر فرماتے ہیں کہ:

”حضرت مولانا محمد الیاسؒ نے فرمایا) ہماری اس دینی دعوت میں  
کام کرنے والے سب لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھادیں چاہئے کہ  
تبیغی جماعتوں کے نکلنے کا مقصد صرف دوسروں کو پہنچانا اور بتانا ہی  
نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعہ سے اپنی اصلاح اور اپنی تعلیم و تربیت بھی  
مقصود ہے۔ لہذا نکلنے کے زمانہ میں علم اور ذکر میں مشغولیت کا بہت  
زیادہ اہتمام کیا جائے، علم دین اور ذکر اللہ کے اہتمام کے بغیر نکانا کچھ  
بھی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ علم و ذکر میں یہ مشغولیت

اس راہ کے اپنے بڑوں سے وابستگی رکھتے ہوئے اور ان کے زیر ہدایت  
ونگرانی ہو۔ انبیاء علیہم السلام کا علم و ذکر، اللہ تعالیٰ کے زیر ہدایت تھا اور

ایک کارکن کو تحریر فرماتے ہیں۔

”ذکر سے اپنی خلوتوں کو اور خلوص کے ساتھ اللہ کی نہایت  
عظمت لیتے ہوئے دعوت الی الحق سے اپنی جلوتوں کو مشغول رکھو۔“

(حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت ص: ۳۱۰)

بیعت کے بعد ذکر کرنا ضروری ہے  
اگر کوئی بیعت ہونے کے بعد بھی ذکر نہ کرتا تو اس سے آپ کو بڑی فکر ہوتی  
اور پورے خلوص کے ساتھ ذکر کے اہتمام کی ترغیب دیتے۔ اس بارہ میں ایک  
دنچسپ واقعہ دلیل میں تحریر کیا جا رہا ہے۔

حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ ان کی

”اگرچہ رسمی بیعت شوال ۱۳۳۳ھ میں حضرت مرشدی  
(حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری) قدس سرہ کے ایک سالہ قیام جم جاز  
کی رو انگی کے موقع پر ہو گئی تھی۔ مگر ذکر و شغل کی توفیق اب تک بھی نہ  
ہوئی۔ میرے پچا جان (حضرت مولانا محمد الیاسؒ) قدس سرہ، اللہ تعالیٰ  
ان کو بلند درجات عطا فرمائے، ان کی شفقتیں بچپن سے مجھ پر بہت ہی  
بڑھتی رہیں۔ وہ مجھ پر بیعت کے بعد سے بہت ہی اصرار فرماتے رہے  
کہ تو ذکر کر لیا کر۔ مگر میں ہمیشہ اپنی نالائقی سے یہ جواب دیا کرتا تھا کہ  
”ہر کسے را بہر کارے ساختہ“۔ ضریب میں آپ لگائیں، سبق میں  
پڑھاؤ نگا۔ یہ لائن میرے بس کی نہیں ہے اور نہ میں اس کا اہل  
ہوں وغیرہ وغیرہ۔ مگر پچا جان کی شفقتیں ہمیشہ بہت ہی مقاضی  
رہیں۔“ (آپ میت۔ ص: ۱۶۰)

اپنے مریدوں کو حضرت مولانا محمد الیاسؒ کا ذکر تلقین کرنا  
آپ بیعت ہونے والوں کو ذکر کی ترغیب و تاکید بھی کرتے تھے اور ذکر  
بھی بتا دیتے تھے۔

مشق، ۵- تصحیح نیت اور اخلاص و احساب کا اہتمام۔ اور اتهام نفس کے ساتھ بار بار اس اخلاص و احساب کی تجدید۔

(ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس ص ۱۳۶-۱۳۷)

### ذاکرین کی نگرانی

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اپنے سے وابستہ تبلیغی حضرات کی نگرانی کا اہتمام بھی فرماتے تھے۔ نہیں کہ ہر ایک کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ دیکھئے حضرت اپنے ایک ملتوی میں کارکنان میوات کے نام تحریر فرماتے ہیں۔

”میرے دوستو اور عزیزو! تمہارے ایک ایک سال دینے کی خبر سے جو ابھی سے مسرت ہو رہی ہے وہ تحریر سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماؤں اور تو فیض مزید عطا فرماؤں میں چند باتوں کی طرف آپ صاحبان کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) اپنے اپنے (حلقے) کے ان لوگوں کی فہرست جمع کر کے مجھے اور شیخ الحدیث صاحب کو لکھیں کہ جو ذکر شروع کر چکے ہیں یا اب کر رہے ہیں یا چھوڑ چکے ہیں۔

(۲) دوسرے جو بیعت ہیں اور ان کو بیعت کے بعد جو بتایا جاتا ہے اس کو بناہ رہے ہیں یا نہیں۔

(۳) ہر مرکز میں جو مکاتب ہیں، ان کی نگرانی اور جدید مکاتب کی جہاں جہاں ضروت ہو۔

(۴) تم خود بھی ذکر و تعلیم میں مشغول ہو یا نہیں۔ اگر نہیں ہو تو بہت جلد اب تک کی غفلت پر نادم ہو کر شروع کر دو۔

(۵) الف سے مراد یہ ہے کہ جن کو بارہ تسبیح بتائی گئی ہیں، وہ پابندی سے پورا کرتے ہیں یا نہیں اور انہوں نے ہم سے پوچھ کر کیا ہے یا

صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ”علم و ذکر“ لیتے تھے اور حضور ﷺ ان کی پوری پوری نگرانی فرماتے تھے۔ اسی طرح ہر زمانے کے لوگوں نے اپنے بڑوں سے علم و ذکر لیا اور ان کی نگرانی اور رہنمائی میں تکمیل کی۔ ایسے ہی آج بھی ہم اپنے بڑوں کی نگرانی کے محتاج ہیں ورنہ شیطان کے جاں میں پھنس جانے کا بڑا اندیشہ ہے۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس ص ۱۱۰-۱۱۱) پھر ایک موقع پر فرمایا۔

ہمارے سب کام کرنے والوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تبلیغ کے لئے باہر جانے کے زمانہ میں بالخصوص علم اور ذکر کی طرف بہت زیادہ توجہ کریں، علم اور ذکر میں ترقی کے بغیر دینی ترقی ممکن نہیں، نیز علم اور ذکر کی تحصیل و تکمیل اس راہ کے اپنے بڑوں سے وابستگی رکھتے ہوئے اور ان کے زیر ہدایت اور ان کی نگرانی میں ہو۔

انبیاء علیہم السلام کا علم و ذکر، اللہ تعالیٰ کے زیر ہدایت اور اس کے حکم کے ماتحت ہوتا تھا، اور حضرات صحابہ کرام نے علم و ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے ماتحت اور آپ کی نگرانی میں ہوتا تھا، پھر ہر زمانے کے لوگوں کے لئے اس قرآن کے اہل علم اور اہل ذکر گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، لہذا علم و ذکر میں اپنے بڑوں کی نگرانی سے استغناء نہیں۔

یہ بھی ضروری ہے کہ خاص کر باہر نکلنے کے زمانہ میں صرف اپنے خاص مشاغل میں اشتغال رہے اور دوسرے تمام مشاغل سے یکسorہا جائے اور وہ خاص مشاغل یہ ہیں:-

۱- تبلیغی گشت، ۲- علم، ۳- ذکر، ۴- دین کے لئے گھر چھوڑ کر نکلنے والے اپنے ساتھیوں کی خصوصاً اور عام خلق اللہ کی عموماً خدمت کی

### حضرت شیخ الحدیث تحریر فرماتے ہیں —

”میں نے اپنے اکابر میں مولانا شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ کو شدید بیماری سے کچھ پہلے تک اور حضرت شیخ الاسلام (مولانا حسین احمد مدفیٰ) اور اپنے بچا جان (حضرت مولانا محمد الیاس) کو دیکھا کہ بہت اہتمام سے ذکر باجھ کرتے رہے۔ اور مشارق سلوک کا تو یہ مقولہ مشہور ہے کہ ”جس چیز کی برکت سے یہاں پہنچے اب اس کو چھوڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔“ (آپ میتی۔ ۱۶۲: ۵۵)

مولانا سید محمد شاہد صاحب تحریر فرماتے ہیں —

”مرض الوفات تک آپ (مولانا الیاس) کا معمول ذکر بالبھر کا نہیں چھوٹا۔ تمام سال تجد کے بعد ذکر کیا کرتے تھے اور ماہ مبارک (رمضان) میں عصر سے مغرب تک۔ ذکر کرتے وقت ان کے ذکر میں ایسی حلاوت و تراوٹ محسوس ہوتی تھی کہ سننے والوں کو بھی بہت صاف محسوس ہوتی تھی۔ اجتماعی معمولات کے ساتھ انفرادی و شخصی معمولات کی بھی، اپنے خدام و مقامیں مرکز کو آخر تک تاکید و بدایت فرماتے رہے۔ اسی کا یہ اثر تھا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی مرتب کردہ فہرست کے مطابق آپ کے حادثہ وفات کے موقع پر ایسے میں اصحاب مرکز میں موجود تھے جو بڑے اہتمام سے ذکر کرتے تھے۔“

(سوانح مولانا محمد انعام الحسن جلد اول ص ۲۸، ۲۵)

### دعاؤنابت الی اللہ:

آپ اس عظیم و عالی دعوتی جو جہد کے ساتھ ساتھ یہ چاہتے تھے کہ اس کام کے ذریعے مسلمان دعا والے بھی بنیں۔ اس لئے کہ دعوت کے ساتھ دعا کا جوڑ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی محنتوں میں یہ دونوں باتیں بدرجہ اقتم موجود ہوتی تھیں۔

خود اپنی تجویز سے ذکر کرنے والوں کو دیکھ کر شروع کر دیا ہے۔ ہر ہر شخص سے دریافت کر کے نمبر وار تفصیل سے لکھو۔

(۶) اپنے مرکزوں سے ہر ہر نمبر کے متعلق نمبر وار تفصیل کے ساتھ کارگزاری میرے اور شیخ الحدیث صاحب کے پاس روانہ کرنے کا اہتمام ہو۔

(۷) جو ذکر بارہ تسبیح کر رہے ہیں ان کو آمادہ کرو کہ وہ ایک ایک چلنے پر جا کر گزاریں۔

(۸) و (۹) .....

(۱۰) میرے دوستو! تمہارے نکلنے کا خلاصہ تین چیزوں کا زندہ کرنا ہے۔ ذکر، تعلیم اور تبلیغ۔ یعنی تبلیغ کیلئے باہر نکالنا اور ان کو ذکر و تعلیم کا پابند کرنا۔..... الخ“ (مکاتیب حضرت مولانا شاہ محمد الیاس ص ۱۳۸ تا ۱۴۰)

حضرت مولانا شاہ محمد الیاس، ایک مرید کو اس کے خط کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

ذکر کی مقدار تم نے بہت غلط لکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ و تسبیح پھر لا الہ“ چار تسبیح پھر ”اللہ اللہ“ چھ تسبیح سب میں قوت و ہمت اور تعظیم و حلاوت لہوڑ خاطر و تمنی ضروری ہے ہمیشہ موافقت رہے ترک نہ ہو۔“ (ارشادات و کوہبات، بانی یماعت تبلیغ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس ص ۱۳۵)

### حضرت جی مولانا محمد الیاس کا ذکر کا معمول و اہتمام:

دوسروں کو ذکر و شغل کی ترغیب دینے اور تاکید فرمانے کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا محمد الیاس خود بھی ذکر کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔

حضرت کا معمول آخر دنم تک دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ ذکر و شغل کارہا۔

لے رائے پور (طبع سہارپور) حضرت مولانا عبد القادر صاحب غلیفہ حضرت شاہ عبد الرحم صاحب رائے پوری کی خدمت میں۔

آپ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں انبات الی اللہ کی کیفیت پیدا ہو۔ اور یہی چیز شانِ عبدیت میں کمال پیدا کرتی ہے۔ اس بارے میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندویؒ تحریر فرماتے ہیں —

**”اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انبات، تضرع و دعا، اور ذکر کی کثرت مولانا کی زندگی کی روح رواں اور ان کے نزدیک ان کی اس دعوت و تحریک کا قلب تھا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔“**

”ہماری اس تحریک کی صحیح ترتیب یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ کام دل کا ہو (یعنی اللہ پاک کے سامنے تضرع اور اس کی نصرت پر کامل اعتماد کے ساتھ اس سے استغاثت اور دنیا و ما فیہا سے بالکل منقطع ہو کر اس کی طرف انبات)۔ اس کے بعد دوسرے درجہ میں جوارح کا کام ہو (یعنی اللہ کی مرضیات کے فروع کے لئے دوڑ و ڈھوپ اور محنت و مشقت)۔ اور تیسرا درجہ میں زبان کا کام ہو (مطلوب یہ کہ سب سے کم مقدار تقریر کی ہو، اس سے زیادہ مقدار سمجھ و جہد کی ہو اور سب سے زیادہ مقدار دل کے کام کی ہو، یعنی اللہ کی طرف انبات اور اس سے استغاثہ و استغاثت)۔“ (حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت ص: ۲۲۵-۲۲۶۔ بحوالہ ”نصرت دین و اصلاح مسلمین کی ایک کوشش، ازمولانا محمد منظور نعمانی“)

**ترکیہ نفس کی فکر، اعتکاف کا اہتمام اور خانقاہی نظام سے حضرت مولانا محمد الیاسؒ کا تعلق:**

حضرت مولانا محمد الیاسؒ کو ترکیہ نفس کا کتنا فکر اور اعتکاف اور خانقاہی نظام سے لکنا گہر اتعلق تھا اور اس طریقے کی کتنی اہمیت ان کے نزدیک تھی، اس کو سمجھنے کے لئے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ کی آپ بیتی سے چند اقتباس یہاں نقل کئے جا رہے ہیں۔ وہ تحریر فرماتے ہیں:

”ایک معمول چچا جان (مولانا الیاسؒ) قدس سرہ کا مستقل یہ تھا (اور یہ بڑی باریک بات ہے) کہ وہ جب کسی تبلیغی اجتماع سے واپس آتے تو ایک سفر رائے پور کا ضرور فرماتے (جہاں عظیم عارف باللہ اور مصلح و مرشد حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوریؒ اور ان کے مرشد حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوریؒ کی وجہ سے یہ ”رائے پوری“ خانقاہ مرجع خلائق تھی۔ ت) ورنہ کم از کم سہارنپور کا۔ اور اگر دونوں کا موقع نہ ہوتا تو تین دن کا اعتکاف اپنی مسجد میں فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ”جلسوں کے زمانہ میں ہر وقت مجمع کے درمیان میں رہنے کی وجہ سے طبیعت اور قلب پر ایک تکدد رپیدا ہو جاتا ہے اور اس کے دھونے کے واسطے یہ کرتا ہوں۔“ میں یہ مضمون لکھوار ہاتھا کہ اتفاق سے مولانا محمد منظور صاحب نعمانی زادِ مجدد ہم دیوبند سے تشریف لائے اور اس وقت تشریف فرمابھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ مضمون خود حضرت دہلوی (مولانا الیاسؒ) کے ملفوظات میں خود ان کا ارشاد بلطفہ منقول ہے۔ چنانچہ چچا جان کے ملفوظات منگوائے گئے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں۔ فرمایا۔ ”مجھے جب بھی میوات جانا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ اہل خیر اور اہل ذکر کے مجمع کے ساتھ جاتا ہوں۔ پھر بھی عمومی اختلاط سے قلب کی حالت اس قدر متغیر ہو جاتی ہے کہ جب تک اعتکاف کے ذریعہ اسے غسل نہ دوں یا چند روز کے لئے سہارنپور یا رائے پور کے خاص مجمع اور خاص ماحول میں جا کر نہ رہوں، قلب اپنی حالت پر نہیں آتا۔“ دوسروں سے کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے دین کے کام کیلئے پھر نے والوں کو جائیئے کہ گشت اور چلت پھرت کے طبع اثرات کو خلوتوں کے ذکر و فکر کے ذریعہ دھوپا کریں۔ اتنی بلطفہ۔ مضمون تو یہ حدیث پاک سے بھی مستبط ہے کہ مجمع کا اثر بڑوں

کے قلب پر بھی پڑ جاتا ہے۔ مشکلاۃ شریف کی کتاب الطہارت میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کی نماز پڑھار ہے تھے۔ اس میں سورہ روم تلاوت فرمائے تھے کہ اس میں متشابہ لگا۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اچھی طرح وضو نہیں کرتے (نماز میں شریک ہو جاتے ہیں) اور یہ لوگ ہماری قرأت قرآن میں گڑبڑ پیدا کرتے ہیں۔ کذافی الحمشلاۃ برؤایۃ النساۃ۔

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اچھی طرح وضونہ کرنے والوں کا اثر پڑ جاتا ہے تو پھر مجمع کا اثر جن میں ہر قسم کے فاسق و فاجر بھی موجود ہوں، مشاخ کے اور پر کیوں نہ پڑیگا۔ جن اکابر و مشائخ کو مجامع سے کام پڑتا ہو۔ تبلیغ میں ہو، جلوسوں اور مواعظ میں ہو بلکہ میرے نزدیک تو مدرسین کو بھی کیونکہ طلباء کی جماعت میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اپنے تذکیرہ قلوب کی طرف بہت توجہ، اہتمام اور فکر چاہئے۔ اعتکاف کا اہتمام تو ہر شخص کو بہت دشوار ہے، لیکن ایسے مجامع کے درمیان میں اور ان کے بعد بھی کچھ وقت مرافقہ اور تربیج و اوراد درود شریف واستغفار میں کثرت سے خرچ کرنا چاہئے۔

(آپ بیت ۱۷۹، ص ۱۷۹-۱۸۰)

لوگوں سے اختلاط کا اثر قلوب پر پڑتا ہے۔ اس کو دھونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں خود حضرت مولانا محمد الیاس فرماتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام باوجود یہکہ معصوم اور محفوظ ہیں اور علوم وہدیات براؤ راست حق تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں، لیکن جب ان تعلیمات وہدیات کی تبلیغ میں ہر طرح کے لوگوں سے ملنا جلتا اور ان کے پاس آتا جانا ہوتا ہے تو ان کے مبارک اور منور قلوب پر بھی ان عوام الناس کی کدورتوں کا اثر پڑتا ہے۔ اور پھر تہائی کے ذکر و عبادت کے ذریعہ وہ

اس گروغبار کو دھوتے ہیں۔

فرمایا۔— سورہ مزمل میں حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قیامِ لیل (تجہ) کا حکم دیتے ہوئے جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ”إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سُبْحَانَ طَوْيِلًا“، (اے رسول! دن میں تم کو بہت چلنا پھر نار ہتا ہے) تو اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دن کی دوڑ دھوپ اور چلت پھرت کی وجہ سے رات کی اندر یہی اور تہائی میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کی ضرورت تھی۔ پھر اس آیت سے اگلی آیت میں جو متصل فرمایا گیا ”وَإِذْ كُرِاسَمْ رَبِّكَ وَتَبَثَّلَ إِلَيْهِ تَبَثِّلًا“، (اور اپنے رب کے نام کی یاد کرو اور یکسوئی سے ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہو) تو اس سے بھی اس مضمون کی مزید تائید ہوتی ہے کہ تبلیغی دوڑ دھوپ کرنے والوں کو ذکر و فکر اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی خصوصیت سے ضرورت ہوتی ہے۔ پس ہم کو بھی اس کے مطابق عمل کرنا چاہئے۔ بلکہ ہم اس کے بہت زیادہ محتاج ہیں، کیونکہ اولاً تو ہم خود کچھ اور ظلمتوں سے بھرے ہوئے ہیں پھر اپنے جن بڑوں سے ہم دینی فیوض اور ہدایات حاصل کرتے ہیں وہ بھی ہماری ہی طرح غیر معصوم ہیں، اور جن میں تبلیغ کے لئے جاتے ہیں وہ بھی عام انسان ہی ہیں۔ غرض ہم میں خود بھی کدورتیں ہیں اور ہمارے دونوں جانب بھی بشری کدورتیں ہیں، جن کا ہم پر اثر پڑنا لازمی اور فطری ہے۔ اس لئے ہم اس کے بہت ہی زیادہ محتاج ہیں کہ رات کی اندر یہیوں اور تہائیوں میں اللہ کے ذکر و عبادت کا اہتمام اور الترام کریں۔ قلب پر پڑے ہوئے برے اثرات کا یہ خاص علاج ہے۔

(ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس ص ۹۰-۹۱)

آدمیوں میں چند لوگ صاحب نسبت ہیں۔ عزیزم مولانا یوسف صاحب، قاری داؤد صاحب، سید رضا صاحب بھوپالی، مولانا انعام صاحب۔ ان کے علاوہ حافظ مقبول صاحب اور مولوی احتشام صاحب کو اس سے پہلے اجازت ہو چکی تھی۔ چچا جان نے فرمایا۔ میرے بعد ان میں سے کسی ایک کو مولانا رائے پوری کے مشورہ سے بیعت کے لئے تجویز کر دو۔ میری (حضرت شیخ کی) رائے حافظ مقبول حسن صاحب کے متعلق تھی کہ ان کو بہت پہلے سے خلافت ملی تھی..... مگر حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کی رائے عالی عزیزم مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تھی..... میں نے چچا جان نور اللہ مرقدہ سے پوری بات عرض کر دی۔ چچا جان نے حضرت اقدس رائے پوری کی تصویب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ میوات والے جتنے یوسف پر بچ ہو سکتے ہیں کسی اور پر نہ ہوں گے۔ میں نے چچا جان نور اللہ مرقدہ کی طرف سے ایک پرچہ لکھا جس میں لکھا کہ میں ان لوگوں کو بیعت کی اجازت دیتا ہوں۔ چچا جان نور اللہ مرقدہ نے میری تحریر کے نیچے میں میں ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت دیتا ہوں۔ یہ جملہ بڑھوادیا۔ (آپ بنتی۔ ۲۔ جس: ۱۸۱۔ ۱۸۲)

یہاں پر خاص طور پر ایک بات قابل توجہ ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کا ذوق و مزاج اور طریقہ کاری تھا کہ ان کے دل میں اہل ذکر اور اہل علم علماء و مشارخ کرام کا بیجد احترام تھا اور ان کی بڑی وقت اور قدر دانی تھی۔ اور اپنے اسلاف کی طرح ان حضرات اہل ذکر و مشارخ پر اعتماد کی تھا۔ یہاں تک کہ اپنے بعد دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار طے کرنے کیلئے بھی انہوں نے پرانے اور تجربہ کار حضرات کی

## حضرت جی دوم حضرت مولانا محمد یوسف اور تذکرہ و احسان

حضرت مولانا محمد یوسف کا اپنے والد گرامی سے بیعت ہونا:

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب (۲۵ جادی الاول ۱۳۳۵ھ مطابق ۲۰ مارچ ۱۹۱۶ء) — روزی قعده ۱۳۸۲ھ مطابق ۲ اپریل ۱۹۶۵ء) اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد الیاس سے بیعت تھے۔ ان کی بیعت کے بارے میں لکھا ہے —

"۱۹۳۵ء (مطابق ۱۳۵۲ھ) میں مولانا محمد یوسف اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سے بیعت ہوئے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے توجہ دلانے پر یہ مبارک عمل وجود میں آیا تھا۔ بیعت کے بعد حضرت مولانا نے آپ کو پاس انفاس کی تعلیم دی اور روزانہ تین ہزار مرتبہ 'اسم ذات' تلقین فرمایا۔ یہ روحانی تعلق قائم ہونے کے بعد آپ کی عالی حوصلگی اور نسبت و استعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ خود حضرت مولانا الیاس صاحب نے ایک موقع پر حضرت مولانا علی میاں سے فرمایا کہ یہاں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب میں یوسف کی استعداد اعلیٰ ہے۔" (سوانح مولانا محمد انعام الحسن جلد اول ص: ۸۷)

حضرت مولانا محمد یوسف کی خلافت و امارت:

حضرت مولانا محمد الیاس کے بعد حضرت مولانا محمد یوسف امیر بنے اور بیعت کے لئے مقرر ہوئے۔ اس کے بارے میں حضرت شیخ تحریر فرماتے ہیں —

"چچا جان (مولانا الیاس) نور اللہ مرقدہ نے اپنے سے مایوسی کی حالت میں وصال سے دو تین دن پہلے اس سیہہ کار سے کہا کہ میرے

دونوں سے کر رہا ہے۔ سید رضا بھی ذکر و شغل میں لگے ہوئے ہیں، اور سوژش و درد سے کام کرتے ہیں۔ مولوی احتشام کو میں نے اجازت دیدی ہے مگر ایک شرط کے ساتھ جو انہیں سے معلوم کر لینا۔ (مولوی احتشام کو وہ شرط یاد نہ آئی تو ہمارے دریافت کرنے پر) پھر فرمایا کہ وہ شرط یہ ہے کہ علماء کا احترام کریں، علماء سے نیاز مندی کا تعلق رکھیں۔ (از زکریا۔۔۔ مجھ سے یہ بھی زبانی فرمایا تھا کہ شرط یہ ہے کہ امراء سے تعلق نہ رکھیں)۔ ہمارے مزید دریافت کرنے پر فرمایا کہ مولوی انعام بھی بہت اچھے ہیں، انہوں نے ذکر و شغل بھی بہت کیا ہے، یہ بھی اسی قبیل کے ہیں البتہ علم کا احترام زیادہ ہے۔۔۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم تینوں کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مولوی یوسف سلمہ کو اجازت دیں، کیونکہ ہمارے نزدیک ان میں شرائط اجازت موجود ہیں، عالم ہیں، باعمل ہیں، متورع ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ اپنی تکمیل کر لیں گے۔ اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی اس شرط سے اجازت دیجائے کہ وہ اپنی تکمیل سے غافل نہ ہوں۔ فرمایا ہاں، جو آپ تینوں کی رائے ہے بہت مبارک ہے اور تکمیل کے لئے تم خود ان سے تاکید کے ساتھ کہہ دینا۔ سلسلہ کا قیام یوں ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ میری طرف سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سمجھنا چاہئے۔ پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ ان تینوں صاحبوں نے جو تجویز کیا ہے اس میں برکت فرم اور جو اس میں ہم سے کوتا ہی ہوئی ہو اس کو معاف فرم۔ اور ہمیں خلوص عطا فرم۔ اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ جو لوگ اس وقت بیعت ہونا چاہتے ہیں ہماری رائے یہ ہے کہ ان کو آپ ہی بیعت فرمائیں، جس کی صورت یہ ہو کہ کپڑے کا ایک سرا حضرت

جائے خالص اہل ذکر خانقاہی مشائخ پر اعتماد کیا۔ اور حضرت مولانا ظفر احمد تھانویؒ، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری اور حضرت شیخ الحدیث کو یہ ذمہ داری سونپی۔ مزید یہ کہ دعویٰ جدوجہد کی ذمہ داری سونپتے وقت، جس کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے اس کا اہل ذکر میں سے ہونا کتنا ضروری ہے اور بیعت و خلافت کی اجازت دینا، قیامِ سلسلہ کے لئے کتنا ضروری ہے۔ ان باتوں کا کتنا اہتمام و فکر حضرت مولانا محمد الیاسؒ کو تھا اس کا اندازہ ذیل کے اقتباس سے ہو گا۔

”آج صحیح حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب کا یہ پیغام پہنچا کہ۔۔۔ میری جماعت میں بہت سے اہل ہیں۔۔۔ شیخ الحدیث اور مولوی ظفر احمد (یعنی حضرت مولانا ظفر احمد تھانویؒ تیسرا نام حضرت مولانا عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ کا ہے جو غالباً نقل میں رہ گیا۔) جس کو ان میں سے منتخب کریں اس سے ان لوگوں کو بیعت کرادیں جو مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔۔۔ پھر یہ پیام پہنچا کہ۔۔۔ مجھے چند لوگوں پر (جن کے نام بھی بتائے تھے) اعتماد ہے۔۔۔ بعد ظہر ہم اس ارشاد کی توضیح کے لئے حاضرِ خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں یہ پیام پہنچا تھا کہ ”مجھے اپنے چند لوگوں پر اعتماد ہے۔۔۔ اس اعتماد کا مفہوم خلافت اور اجازت تھی یا کیا تھا؟ سکوت کے بعد فرمایا کہ (حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی کے خلیفہ) مولوی شفیع الدین صاحب نے قاری داؤد اور حافظ مقبول حسن پر اعتماد طاہر کیا تھا، اسی وقت میں نے ان کے احترام کی وجہ سے کہ حرم کے رہنے والے ہیں ان کو اجازت دے دی تھی۔۔۔ مگر اب مجھے ان پر پہلے سے بہت زیادہ اعتماد ہے اور ان کے علاوہ اور بھی چند لوگوں پر اعتماد ہے۔۔۔ مولوی یوسف میں استعداد بہت ہے۔۔۔ میں نے اس کو باس انفاس بتلایا تھا اور بہت

کے ہاتھ میں ہوا و بیعت ہونے والوں کو ایک شخص کلمات بیعت تلقین کرتا رہے۔ فرمایا نہیں۔ اس کی ضرورت نہیں۔ میں بہت گر گیا ہوں۔ مجھے بہت تعجب ہوگا۔ ہم نے عرض کیا کہ پھر اعلان کر دیا جائے کہ جو بیعت ہونا چاہیں وہ مولوی یوسف صاحب سے بیعت ہو جائیں۔ اور وہ بیعت حضرت ہی سے ہوگی۔ فرمایا ہاں مناسب ہے۔ اور آپ تینوں کا ہاتھ اس پر ہوگا۔” (آپ بیتی۔ ۲۰۶ ص ۲۰۸)

### حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کا طریقہ بیعت:

جس طرح حضرت مولانا الیاسؒ کے حالات میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیعت بھی فرماتے تھے۔ اس کی تاکید بھی فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد یوسف صاحبؒ جب حضرت دہلویؒ کے جانشین مقرر ہوئے تو آپ نے بھی بیعت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ بیعت کے بارے میں آپ کا کیا معمول تھا اور طریقہ بیعت کیا تھا۔ اس بارے میں چند اقتباسات تحریر کئے جا رہے ہیں۔

”آپ کا طریقہ بیعت یہ تھا کہ سب سے پہلے بیعت کی حقیقت و اہمیت اس کے آداب اس کی ذمہ داریاں اور اس کے فضائل بیان فرماتے۔ اس کے بعد عام طریقہ بیعت (جو ان کے مشائخ کے یہاں مروج تھا) سے کام لیتے پھر دینی دعوت کے فضائل سننا کر اس کے لئے مرثیہ اور اوقات دینے کا عہد کراتے۔ حضرت مولانا بیعت کے الفاظ اپنے خاص انداز اور موثر لمحے میں فرماتے۔ مکبرین ان کو دہراتے پھر پورا جمیع بلند آواز سے ان کو کہتا۔ پوری فضا گونج اٹھتی اور مسجد کے اندر باہر کے حصوں میں ارتعاش پیدا ہو جاتا۔ ہچکیاں بندھ جاتیں۔ اور سارا جمیع خواہ بیعت ہونے والوں میں ہو یا نہ ہو، سب ہی ان الفاظ کو بے اختیار دہرانے لگتے۔“ (سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد اول ص: ۱۰۰-۱۰۱)

### ماہ مبارک میں اعتکاف:

ہمارے اکابر تبلیغ کے یہاں اعتکاف کا بھی مستقل معمول تھا۔ اور ایک بڑے مجمع کے ساتھ اعتکاف فرماتے تھے اور دعوت کے کام کے ساتھ ساتھ اس کا بھی بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار حضرات کا اعتکاف کرنا نہایت ضروری ہے، اس لئے کہ —

”اکابر و مشائخ کے یہاں رمضان المبارک خاص ذوق و شوق اور حلاوت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں ان کی طاعات و عبادات بالخصوص تلاوت قرآن پاک میں کیت و کیفیت کے اعتبار سے نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے یہاں بھی رمضان المبارک اور اس کے آخری عشرہ کے اعتکاف کا بہت اہتمام ہوتا تھا۔ مولانا محمد یوسف صاحبؒ بھی ان ہی خاصانِ خدا میں تھے جو اس ماہ سے پورا پورا الطف و سرور حاصل کرتے اور دعوتی مشاغل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، اوراد و وظائف کا کچھ زائد ہی اہتمام فرماتے تھے۔ نیز تصنیف و تالیف کا اوسط اس ماہ میں پورے سال کے مقابلہ میں بڑھ جایا کرتا تھا..... حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے جانشین ہونے کی حیثیت سے آپ بائیس سال حیات رہے۔ اس بائیس سالہ دور کے رمضان المبارک کی تفصیلات قدرے وضاحت کے ساتھ یہاں پیش کی جاتی ہیں تا کہ دعوت و تبلیغ، تصنیف و تالیف اور خلوت و اعتکاف کا ایک جمیعی نقشہ قارئین کے سامنے آجائے۔“ (سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد اول ص: ۱۲۲)

ان تمام تفصیلات کو یہاں درج کرنا طوالت کا باعث ہوگا۔ اس لئے چند سالوں کے اعتکاف کے ذکر پر ہی الکتفا کیا جا رہا ہے۔ دیگر تفصیلات سوانح مولانا محمد

### مولانا محمد یوسف صاحبؒ کے ماہ مبارک کے معمولات:

رمضان المبارک کے جو قدر دن ہوتے ہیں، ان کے مجاہدات و عبادات اور معمولات اس ماہ مبارک میں بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ۱۳۵۲ھ کے رمضان میں جبکہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحبؒ کی عمر صرف سترہ سال تھی۔ اپنے معمولات کے بارے میں حضرت شیخ توحریر فرماتے ہیں۔

”آج تک تو اپنا دستور العمل یہ رہا کہ عشاء کے بعد چائے اور اس کے بعد ایک منزل پڑھنی، پھر کل والے سپارہ کو ایک دفعہ پڑھنا، اس کے بعد ڈیڑھ بجے تک لکھنا، دو سے تین تک اس سپارہ کو تجدیں میں پڑھ کر استغفار و درود کی تسبیح پڑھنا، ساڑھے تین بجے سے پونے پانچ بجے تک ڈیڑھ سپارہ کو تین دفعہ پڑھنا، پونے پانچ بجے سے سوا پانچ بجے تک حکمری، پھر نماز، بعد نماز تا طلوع شمس جو کچھ کام باقی ہواں کو پورا کر کے سوم کلمہ کی تسبیح پڑھنا اور بعد طلوع فجر اشراق کی نماز پڑھ کر سورہ نہیں، ظہر کے بعد ایک دفعہ سپارہ کو کہہ کر سنانا۔ (اذان مغرب کے بعد) نماز مغرب سے قبل چائے و کھانے سے فارغ ہو کر نماز کے بعد اس ڈیڑھ سپارہ کو صلوٰۃ الا وابین میں پڑھنا، پھر تراویح۔ رات قرآن شریف ختم ہو گیا، آج دوسرا قرآن شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ حق تعالیٰ کا میا بفرماؤں۔“ (سوخ مولانا محمد انعام الحسن صاحبؒ جلد اول، ص: ۱۲۳)

یہ معمولات تو اس رمضان المبارک کے ہیں جب آپ ابھی امیر نہیں بنئے تھے بالکل نوجوان تھے، جوانی و امارت کے ۱۳۵۲ھ تا ۱۳۷۷ھ کے رمضان المبارک کی کیفیات و معمولات کا ذکر طوالت کا سبب ہوگا۔ اس لئے صرف آپ کی حیات کے آخری رمضان (۱۳۸۲ھ) کے معمولات یہاں تحریر کئے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحبؒ کا رمضان

انعام الحسن جلد اول میں ملاحظہ فرمائیں۔

”رمضان ۱۳۶۵ھ- حضرت شیخ یہ ماہ مبارک مرکز نظم الدین میں گزارنے کے لئے ۲۸ ربیعہ (۲۹ جولائی ۱۹۴۶ء) میں دہلی تشریف لے گئے۔ اور مرکز کی مسجد میں پورے مہینہ کا آپ نے اعتکاف فرمایا۔ مولانا محمد یوسف صاحبؒ نے تقریباً جالیں احباب کے ساتھ آخری عشرہ کا اعتکاف کیا۔ (سوخ مولانا محمد انعام الحسن صاحبؒ جلد اول ص: ۱۲۸)

یہ رمضان المبارک (۱۳۶۵ھ) نظام الدین میں باعث وہار بن کر آیا تھا۔ ساری مسجد ذکر و تلاوت سے گھنٹی رہتی تھی۔ ایک ہی وقت خانقاہ بھی تھی۔ مدرسہ بھی۔ ہر چھوٹا بڑا سارا دن اور ساری رات بس ذکر و تلاوت میں گزارتا۔ کوئی ایک قرآن روز پڑھتا، کوئی اس سے کم یا زیادہ۔ حضرت شیخ الحدیث اور مولانا محمد یوسفؒ کی عبادت و ریاضت، مجاہدہ اور تلاوت قرآن کا پوچھنا ہی کیا۔ کوئی لمحہ ایسا نہ گزرتا جس میں یہ بزرگ خالی بیٹھے ہوں۔ پورے رمضان کی راتوں میں سونا خارج از بحث تھا، دن کو چند گھنٹے سو لیتے پھر شب و روز عبادت میں گزار دیتے“ (ایضاً ص: ۱۲۹، ۱۲۸)

۱۳۸۳ھ کے رمضان کے بارے میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحبؒ نے تفصیلی خط حضرت شیخ کے نام سہار پر تحریر فرمایا تھا۔ اس میں تحریر فرماتے ہیں۔ ایک تفصیلی خط حضرت شیخ کے نام سہار پر تحریر فرمایا تھا۔ اس میں تحریر فرماتے ہیں۔ ”اس رمضان میں شروع ہی سے اس قدر ہجوم اور کثرت واردین کی رہی کہ سفر کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ میوات و دوآبے کے علاوہ دور کے صوبوں کی آمد بہت کثرت سے رہی۔ اب بھی اعتکاف میں ایک سو فری بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے مسجد میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے۔ بھری جہاز کی طرح معتقليں کو جگہ تقسیم کی گئی،“ (سوخ مولانا محمد انعام الحسن صاحبؒ جلد اول ص: ۱۳۰-۱۳۱)

المبارک میں سفر نہ کرنے کا معمول تھا۔ آج کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اس کو نگاہِ حقارت سے دیکھا جانا اور ”فضل و تفضیل“، کام سلسلہ کھڑا کرنا کام میں انتشار و خلل پیدا کریں گا۔ ہاں کوئی شدید تقاضا آجائے دین کے لئے نکلنے کا تب ایسا شخص ضرور رخدا کے راستے میں جائے، اس میں کوئی اشکال نہیں، تاہم اگر اس طرح کا کوئی شدید تقاضا نہ ہو تو اس ناجیز کے خیال میں پرانوں کے لئے اعتکاف کرنا ہی زیادہ مناسب ہوگا۔ اس لئے کہ سال بھر عوqi تقاضوں میں یکسوئی اور اپنے دل کی صفائی کا موقع نہیں ملتا۔ اور سب سے بڑے داعی، داعی اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کی بڑی بڑی فضیلیتیں بیان کی ہوں اور خود اعتکاف کا اہتمام کیا ہو تو سارے ہی دین کی محنت کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اعتکاف کا اہتمام فرمائیں۔

حضرت مولانا محمد یوسفؒ کا بھی معمول اپنے رفقاء کے ساتھ اعتکاف کا رہا ہے۔ اور آپ کا اکثری معمول ماہ مبارک میں سفر کا نہیں تھا۔ آپ کی حیات کے آخری رمضان کے معمولات یہاں پیش کئے جا رہے ہیں۔

”نمازِ فجر اذان ہونے کے بعد ادا کر لی جاتی اور پھر مولانا محمد یوسف صاحبؒ کا ڈھانی تین گھنٹے طویل بیان ہوتا..... تشکیل سے فراغت کے بعد مولانا اپنے حجرے میں نوافل پڑھ کر کچھ دیر قرآن پاک دیکھ کر تلاوت فرماتے۔ تقریباً گیارہ بجے پھر مسجد میں تشریف لا کر دعا فرماتے، اور جماعتوں کو رخصت کرتے۔ اسی طرح جو جماعتوں اپنا وقت گزار کرو اپس مرکز میں آئی ہوئی ہوتیں، ان سے بھی مصافحہ و ملاقات فرماتے۔ اس کے بعد حسب گنجائش وقت آرام فرماتے۔ اذان ظہر پر بیدار ہو کر نماز کی تیاری ہوتی۔ رمضان المبارک میں چونکہ سفر نہ کرنے کا معمول تھا اس لئے پانچوں نمازوں کی امامت

خود فرماتے۔ نمازِ ظہر سے فارغ ہو کر حافظ محمد شفیع صاحب کو تراویح میں پڑھانے والا سپارہ سناتے۔ بعد اذان خصوصی خطوط کے جوابات لکھواتے۔ یہ سلسلہ عصر کی اذان پر ختم ہوتا۔ نمازِ عصر کے بعد کچھ دیر کے لئے گھر میں تشریف لاتے۔ والدہ محترمہ، اہلیہ محترمہ اور خاندان کی دیگر مستورات سے ملاقات، مزاج پرسی اور خانگی امور پر بات چیت فرماتے۔ غروب آفتاب سے دس منٹ قبل، قبلہ رو ہو کر متوجہ الی اللہ ہو جاتے۔ روزہ افطار کرنے کا معمول جھرے میں ہا، جس میں ۲۰-۱۵ کی تعداد میں مخصوص احباب اور خدام کی شرکت ہوتی۔ نمازِ مغرب سے قبل ہی افطار کی کھانا اور چائے سے فراغت ہو جاتی۔ نمازِ مغرب کے بعد صلوٰۃ اواین پڑھتے جس میں کم و بیش ایک گھنٹہ صرف ہوتا۔ اواین سے فارغ ہو کر کچھ دیر آرام فرماتے، اتنے میں عشاء کی اذان ہو جاتی تو نماز تراویح کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے۔

مولانا محمد یوسف صاحبؒ اطمینان اور ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے عادی تھے، جس کی بنا پر دو گھنٹے میں تراویح پوری ہوتی تھی۔ وتر سے فارغ ہو کر کچھ دیر کے لئے حجرے میں تشریف فرماتے۔ مولانا معین الدین بلند شہری اس وقت کوئی مقوی خیریہ یا دوا کھلاتے۔ اس کے بعد پھر مسجد میں آ کر کتاب حیات الصحابة اور اس کا ترجمہ سن کر اس کی توضیح و تشریح فرماتے۔ کتاب سے فارغ ہوتے ہوئے تقریباً آدھی رات گذر جاتی۔ بمشکل ڈیڑھ دو گھنٹے آرام کے بعد نمازِ تہجد میں مصروف ہو جاتے اور اس سے فارغ ہو کر سحری تناول فرماتے۔“ (سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحبؒ جلد اول ص: ۱۳۲-۱۳۳)

### حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحبؒ کا ذکر کا اہتمام:

”بیعت کے ذریعہ روحانی تعلق قائم ہونے کے بعد آپ نے اس راہ میں بڑی جانشناپی بلکہ جان سوزی اور جان کا ہتھ کا ثبوت دیا۔ اور اپنے آپ کو ہم تین دعوت و تبلیغ اور اذکار و اوراد میں مصروف و مشغول کر دیا۔ ذکر اسم ذات جس کی ابتداء بارہ ہزار سے ہوئی تھی، آہستہ آہستہ بڑھا کر ستر ہزار کی مقدار تک پہنچا دیا۔ ایک طویل عرصہ تک یہ معمول رہا کہ مقبرہ ہایوں میں (جو قریب ہی میں قلعہ نما ایک عمارت ہے) چلے جاتے اور ایک گوشہ میں بیٹھ کر اپنا زکر اور معمولات بورے کرتے۔ بسا اوقات یہ نشست سات سات گھنٹے طویل ہو جاتی تھی۔ اس طویل نشست میں ذکر خفیٰ اور پاس انفاس پر پوری توجہ صرف فرماتے..... معمولات میں آپ کا ایک محبوب ترین عمل اور وظیفہ تلاوت قرآن پاک بھی تھا۔ جس کی یومیہ مقدار پندرہ سولہ پارے ہو جاتی تھی..... ماہ رمضان میں تلاوت قرآن پاک میں غیر معمولی بلکہ میراً عقل حد تک اضافہ ہو جاتا۔ حضرت شیخ کی تحریر کے مطابق ایک مرتبہ رمضان المبارک میں اکشہ قرآن پاک آپ نے ختم فرمائے تھے۔“  
(سوائی مولانا محمد انعام الحسن صاحبؒ جلد اول، ص: ۲۲۲-۲۲۳)

### حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے دوچاراغ:

تذکیرہ و تربیت کے متعدد مراحل سے گذارنے کے بعد حضرت مولانا محمد یوسفؒ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب پر، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ایک موقع پر یہاں تک ارشاد فرمایا تھا کہ — حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ کے لئے جیسے مولانا محمد قاسم صاحب و مولانا شیداحمد صاحب تھے، ایسے ہی میرے

### حضرت جی سوم حضرت مولانا محمد انعام الحسنؒ اور تذکیرہ احسان

حضرت مولانا محمد انعام الحسنؒ کی بیعت:  
دعوت و تبلیغ کے تیرے امیر حضرت جی مولانا محمد انعام الحسنؒ (رجاہی اولاد ۱۳۳۶ھ مطابق ۲۰ فروری ۱۹۱۸ء۔ ۱۰ ارخر ۱۳۱۶ھ مطابق ۱۰ جون ۱۹۹۵ء) ہوئے۔

”آپ نے (۱۹۲۹ء) میں حضرت مولانا الیاس صاحبؒ کی خدمت میں نظام الدین پیش گئے تھے اور اسی وقت سے گویا آپ کے زیر تربیت تھے۔ لیکن بیعت کا تعلق تقریباً پانچ چھ سال بعد قائم کیا۔ خود فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہم لوگ ابھی تک بڑے حضرت جی سے بیعت نہیں ہوئے تو فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تم دونوں (مولانا یوسف اور مولانا انعام الحسن) بیعت ہو چکے ہو گے۔ بہر حال اب دیر نہ کرو۔ چنانچہ ہم لوگوں نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت نے منظور فرمایا کہ پہلے خود غسل فرمایا اور پھر خوشی کے ساتھ بیعت فرمایا۔ اور فرمایا۔ اللہ مبارک کرے اور انشاء اللہ مبارک ہی ہے۔“

حضرت مولانا (محمد الیاسؒ) نے بیعت کے بعد دونوں حضرات کو پاس انفاس تعلیم فرمایا کہ مولانا محمد یوسف صاحب کو اسم ذات تین ہزار اور مولانا محمد انعام الحسن صاحب کو بارہ ہزار تلقین فرمایا۔ اس کے علاوہ اور امسنونہ، حزب الاعظم اور حصن حصین پڑھنے کی تاکید کی۔“  
(سوائی مولانا محمد انعام الحسن جلد اول، ص: ۲۲۲)

لئے یہ یوسف و انعام ہیں۔ (سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد اول ص: ۲۲)

**حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب " کو اجازت و خلافت:**

مسلسل محنت و مجہدہ کے ذریعہ آپ اس مقام پر پہنچ گئے کہ آپ کو اجازت بیعت اور خلافت، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب " کی طرف سے عطا ہوئی۔

"حضرت مولانا محمد الیاس صاحب " نے اپنی حیات کے آخری دن ۱۲ رجب ۱۹۳۲ء چہارشنبہ میں علماء و مشائخ کی موجودگی میں ان چھ اصحاب کو اجازت دی..... اس موقع پر حضرت مولانا نے پانچوں اصحاب کے بارے میں اپنا وجدان و اشراحت اور اپنے تاثرات بھی ارشاد فرمائے تھے۔ مولانا انعام الحسن صاحب کے بارے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنا تاثر ظاہر فرمایا کہ — مولوی انعام بھی بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے بھی ذکر و شغل بہت کیا ہے۔ یہ بھی اسی قبل سے ہیں، البتہ علم کا احترام زیادہ ہے۔" (ایضاً ص: ۲۲۸-۲۲۹)

**حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب " کی امارت و بیعت:**

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب " کے وصال کے بعد "حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اکابر اور جماعتی احباب سے مشورہ کے بعد حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب کو تبلیغی و دعوتی امور کا ذمہ دار اور امیر بنایا اور پھر عمومی اعلان ہو کر مکہیتی جاشین آپ نے لوگوں کو بیعت کیا۔" (سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد اول ص: ۲۲۳)

"حضرت مولانا الیاس صاحب " کی طرف سے آپ کو اجازت بیعت میں رجب ۱۳۶۳ھ (۱۹۴۳ء) میں مرحمت فرمائی گئی تھی..... بالیکس سال میں صرف تین اشخاص کو بیعت کر کے آپ نے سب سے پہلی عمومی بیعت تین ذیقعده ۱۳۸۲ھ (۱۹۶۱ء اپریل

**۱۹۶۵ء** میں امیر جماعت تبلیغ منتخب ہونے برفرمائی۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ہر گذرے ہوئے دن کے مقابلہ میں وسیع اور دراز ہوتا چلا گیا۔ قیام گاہ پر روزانہ خواص و عوام کا بڑا جمیع آتا اور بیعت ہو کر واپس جاتا۔ اسی طرح آپ کا ہر سفر بھی آہستہ آہستہ ارشاد و ہدایت کی لائیں سے ہزاروں افراد کی اصلاح و تربیت اور رجوع الی اللہ کا ذریعہ بننے لگا۔"

(سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد سوم، ص: ۳۲۹)

"حضرت مولانا کا دو ریامت اس اعتبار سے بھی بڑا عہد آفرین اور انقلاب انگیز ہے کہ اس میں ایک خلق کیش نے آپ سے عقیدت و ارادت اور رشد و ہدایت کا تعلق قائم کر کے، اپنے دامن کو آپ کے دامن سے وابستہ کیا۔ اور پھر آپ سے روحانی و ایمانی تربیت حاصل کی۔ عہد امارت کے پورے تینیں سالہ دور میں عوام و خواص کے طبقات کا جس انداز سے آپ کی طرف رجوع ہوا اس سے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب " کے قائم کردہ اس سلسلہ روحانیت کو تمام طبقات میں ایسی زبردست وسعت و ہمہ گیری حاصل ہوئی کہ آج —

"بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاتھ پر انعام کے واسطے سے —" کی گوئی دنیا کے تمام برا عظموں میں سنائی دے رہی ہے۔" (سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد سوم ص: ۳۲۰)

بیعت و طریقت کے متعلق حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب " کے

**بصیرت افروز خیالات:**

بیعت اور سلوک و تصوف کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟؟ اس کے متعلق حضرت جی کی نہایت فقیہانہ توضیحات اور تشریحات کو ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بغور ملاحظہ فرمائیں:

نیابتِ انبیاء والے احکامات کے ٹوٹنے کی وجہ سے عبدیت والے احکامات ٹوٹنے ہیں یا ان کی جان نکل جاتی ہے اور صرف ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح خلافت والے احکامات ٹوٹنے سے تقاضائے بشریت کی لائن کے احکامات ٹوٹنے ہیں اور اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ خلافت کا حکم اگر پورا نہ ہو تو تقاضاء بشریت کا توازن برقرار نہیں رہتا۔ پھر جھوٹ خوب چلتا ہے اور رشتہ خوب پھیلتی ہے۔ خوب سمجھ لو کہ دو چیزوں کا دو چیزوں سے جوڑ ہے۔ نیابت کا عبدیت سے جوڑ ہے اور خلافت کا تقاضائے بشریت سے جوڑ ہے۔

ایک مرتبہ بیعت کو اپنی زندگی کا فیصلہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ بدن سے نکلنے والے عملوں اور دل کے یقین کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ بیعت میں بھی آدمی اسی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے۔ بیعت میں جس چیز کا اقرار ہوتا ہے، تبّغ میں جا کر اسی کو عملًا کرنا بُڑتا ہے۔ اور بیعت میں جس کا اقرار کیا جاتا ہے، جماعت میں جا کر اسی کو عمل میں لایا جاتا ہے۔ اگر اقرار کر کے عمل نہ کیا جائے تو وہ اقرار ضعیف، بودہ اور مضطہل ہے۔ بیعت ہونے والے یہ سمجھ لیں کہ یہ خالی لفظی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کا کام کرتے رہنا ہے۔ ناراضگی کا کام نہیں کرنا ہے۔ موت تک کی زندگی صحیح گذاری ہے۔ جو حقیقت مخت کریا اس پر اس کا رنگ اتنا ہی مضبوط آئے گا اور اگر محنت نہ کرے تو دوسرے ماحول میں جا کر وہ رنگ صاف ہو جائے گا۔

ایک مجلس میں انوارات و ظلمات کے درمیان تقابل بتلا کر طاعات و عبادات اور ان کے ذریعہ نسبت روحاںیہ کے اجاگر اور پمکدار ہونے کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ آج نفسانیت کا لشکر غلبہ

”حضرت مولانا کا معمول تھا کہ بیعت سے قبل اس کی ضرورت و افادیت اور نافعیت پر ضرور کچھ روشنی ڈالتے اور پھر کلاماتِ بیعت ادا فرماتے تھے تاکہ بیعت ہونے والوں کو اس کی اہمیت کا احساس ہو اور وہ اس کو صرف ایک رسم و رواج یا کوئی معمولی چیز نہ سمجھ بیٹھیں۔ ایسے موقع پر فرمائے گئے کچھ اہم ارشادات یہاں پیش کئے جا رہے ہیں۔

ایک موقع پر بیعت کو محنت اور قول و قرار سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا۔ بیعت میں آخرت کی زندگی بنانے کا قول و قرار ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں گے جو آخرت میں نقصان پہنچائے اور جن کو گناہ کہتے ہیں اور جماعتوں میں نکل کر ان سے بچنے اور مفید عمل کرنے کی مشق کریں گے۔ معاملہ اللہ سے ہے، نیچ و الاتو صرف واسطہ ہے۔ آدمی پہلے بیعت کرے پھر زبان سے کہہ پھر عمل کرے۔

دوسری مجلس میں اس اجمالی کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں۔ بیعت ایک محنت کا قول و قرار ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کی ناراضگی والے عمل سے بچیں گے۔ جو اس عہد کو توڑیا اس کا نقصان اسی کو ہوگا فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ۔ (سورہ فتح، آیت ۱۰، پ ۹۶)

ہر انسان کے اوپر خدا کے چار قسم کے احکامات ہیں۔ ایک عبدیت دوسرے تقاضائے بشریت۔ تیسرا خلافت الہیہ اور چوتھے نیابتِ انبیاء۔ یہ چار قسم کے احکامات ہیں۔ ان میں اول حکم عبدیت ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ دوسرے تقاضائے بشریت جیسے کھانا پینا، مکان، تجارت، نکاح، کھیتی باڑی وغیرہ۔ تیسرا خلافت الہیہ جیسے رحم، ہمدردی، سخاوت، خدمت، عیب کا چھپانا وغیرہ۔ چوتھے نیابتِ انبیاء جیسے دعوت اور امر بالمعروف وغیرہ۔ ان چاروں احکامات کو پورا کرنا ہر آدمی کی اصل ذمہ داری ہے۔

ہے کہ پلہ پکڑ لیا اور کافی ہو گیا۔ بلکہ ہم کو عہد کرنا ہے کہ گناہوں سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ، نفس و شیطان کے طریقے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سے معافی مانگنا ہے اپنے گناہوں کو ان سے معاف کرانا ہے۔

اپنے تمام اکابر و مشائخ کی طرح حضرت مولانا بھی شریعت اور طریقت کو دوالگ الگ چیزیں نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی ان کے درمیان کسی تفریق یا حدیہ فاصل کے قائل تھے۔ بلکہ وہ شریعت کو احکاماتِ خداوندیہ کا ظاہری حصہ اور طریقت کو (جس کا ایک اہم جز بیعت بھی ہے) احکاماتِ خداوندیہ کا باطن حصہ سمجھتے تھے اور اپنی عمومی و خصوصی مجلس میں گاہ بگاہ اس کی توضیح و تشریع بھی فرمادیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بنگلور کے اجتماع میں فرمایا کہ — احکاماتِ خداوندیہ دو طریقے کے ہیں۔ ایک وہ جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، معاملات میں بیع و شرا، ان کے احکام ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور دوسرے احکامات وہ ہیں جو انسان کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں، باطن کے احکامات جیسے تقویٰ ہے، زہد ہے، رضا بالقصاء ہے، صبر و شکر ہے، حلم ہے بردباری ہے، غفو ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، یہ بھی احکامات ہیں خدا نے پاک کے۔ انہیں طریقت کہا جاتا ہے۔ طریقت، کوئی شریعت سے الگ چیز نہیں ہے۔ وہی احکامات جو شریعت نے، ظاہر کے دے رکھے ہیں وہی احکامات باطن کے بھی ہیں۔ دونوں احکامات کے پورا کرنے میں لگانا یہ ہے شریعت و طریقت۔

ایک طبقہ وہ ہے جو باطن کے احکامات پورا کرنے میں اس کے سدھارنے میں اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، وہ

پائے ہوئے ہے۔ قلب کا شکر، انوارات، ہیں اور نفس کا شکر، ظلمات، ہیں۔ اب ہمیں محنت و کوشش کر کے قلب کے شکر کو اور انوارات کو غالب کرنا ہے۔ اور نفانتی کے شکر کو مغلوب کرنا ہے۔ ریاضت، طاعت اور عبادات سے نورانیت آتی ہے۔ خدا کی طرف کارستہ طے ہوتا ہے۔ نماز خوب رغبت سے پڑھی جائے۔ تسبیحات و متلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ ان اعمال سے نور آ کر خدا تک پہنچنا آسان ہو گا۔ کیونکہ اصل منزل صرف خدا کی ذات سے تعلق قائم کرنا ہے۔ اور وسائل، آلات و سواریاں ہیں، منزل تک پہنچنے میں۔ بہت سے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں جو منزل تک پہنچنے نہیں دیتے اور وہ ڈاکو نفس کی خواہشات ہیں۔ یاد رکھو کہ نسبت تو ہر شخص میں خدا کی ہے۔ یعنی مخلوق ہونے کی وجہ سے خلق کی نسبت ہے۔ مرزوق ہے تو رزق کی نسبت ہے۔ لیکن یہ سب نسبتیں انسان کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ مجاہدات اور ریاضات سے اوپر کی دھول مٹی ہٹ کروہ نسبت اجاگر اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ اور ان ریاضات و مجاہدات میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ (سوانح مولانا محمد انعام الحسن جلد سوم ص ۳۳۲، ۳۳۳)

”ایک مرتبہ بیعت کی افادیت اور اس کی غرض بتلاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔— دوستو! بیعت ہونا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی زندگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر بنانی ہے۔ اللہ نے آپ کو نمونہ بنانے کریم ہے۔ جو شخص اس نمونہ کے جس قدر قریب ہو گا اتنا ہی اللہ جل شامہ کے یہاں محبوب ہو گا۔ ہم کو موت تک اس کوشش میں لگنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گذاری ہے۔ رات ہو یادن ہو، جا گناہ ہو یاسونا، کھانا ہو یا پینا، ہم کو آپ کے حکم کے مطابق زندگی گذاری ہے۔ بس یہ غلاصہ ہے بیعت کا۔ یہ کوئی رسم نہیں

بیعت کرتے تھے اور ان کی بیعت کا طریقہ کیا تھا۔

”حضرت مولانا کی ایک بیعت تو وہ ہوتی تھی جو اجتماعات کے

وقت باقاعدہ جلسہ گاہ میں منبر پر بیٹھ کر فرماتے تھے۔ اس میں عمومیت ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ اجتماع میں شریک غیر مسلم بھی وہ کلمات بیعت ذہرا لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بیعت صرف میوات تک محدود تھی۔ شاذ و نادر کسی اور گاؤں، دیہات میں بھی ہو جاتی تھی۔

دوسری بیعت وہ تھی جو اجتماعات میں اپنی قیام گاہ پر ہوتی تھی۔

شہری اور علاقائی اجتماعات میں اس کام کے لئے مغرب بعد کا وقت معین تھا۔ حضرت مولانا اذایں سے فارغ ہو کر اس مجلس میں تشریف لاتے اور بیعت فرماتے۔ مولانا محمد بن سلیمان جہاں بھی پہلے سے اس مقصد کے لئے آنے والوں کو بیعت کے آداب اور اس کے اصول بتا دیا کرتے تھے۔

تیسرا بیعت وہ تھی جو حضرت مولانا، مرکز نظام الدین میں روزانہ صحیح کے وقت (جماعتوں کی روائی کے بعد) اپنے جگہ میں فرمایا کرتے تھے۔ بیعت ہونے والے (مردمستورات) الگ الگ دو کروں میں جمع ہو جاتے۔ مسٹورات کے لئے زنانہ مکان کا ایک کرہ معین تھا، وہاں تک آواز مائیک کے ذریعہ پہنچ جاتی تھی۔“ (سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد سوم ص ۳۲۷)

”حضرت مولانا کی بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ ایک بڑی رسی (اور کبھی بڑا رومال یا چادر وغیرہ) کا ایک سراپا ہاتھ میں تھام لیتے اور بیعت ہونے والے اس کو اپنے دونوں ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ لیتے۔ بعد ازاں آپ چند کلمات، بیعت کی حقیقت پر فرمایا کر خطبہ مسنونہ پڑھتے۔ پھر عہد و پیمان کرتے۔ اس کے بعد پڑھنے کے لئے اوراد و

اولیاء کرام کہلاتے ہیں۔ ہمارا کام ظاہر کے احکامات کو پورا کرنا ہے اس طریقہ سے کہ باطن کے احکامات اس میں اجاگر ہو رہے ہوں۔ ہم جو نماز کی، تعلیم کی، تسبیح کی دعوت دے رہے ہیں، اس کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں جو کچھ اپنے اوپر پیش آ رہا ہے اس پر اگر ہم صبر کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دل خوش کن بات سامنے آ رہی ہو تو اس کے اوپر شکر کر رہے ہوں اور اپنے کرنے میں خدا نے پاک عز اسمہ پر بھروسہ کر رہے ہوں اور پھر جو کچھ پیش آ رہا ہو اس کے اوپر راضی ہو رہے ہوں تو پھر ہماری ترقی ہوگی، ہم بڑھتے چلے جائیں گے اور خدا نے پاک ہمیں دین کا عامل قرار دیں گے۔ یہ ظاہر و باطن کے دونوں احکامات کو لے کر چلا، یہی انسان کی اصل ذمہ داری ہے۔ اور اگر ظاہر کے احکامات پر محنت کرنے میں اپنے باطنی احکامات کی کوشش نہیں کی تو اس سے رذائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ظاہر کے منہیات ہیں مثلاً جھوٹ ہے، غیبت ہے، چوری، شراب خوری، بدکاری ہے اور یہ سب چیزیں منوع ہیں۔ ایسے ہی باطن کے بھی منہیات ہیں جیسے تکبر ہے، تحقر ہے، غیبت ہے، عجب ہے، اپنی بڑائی کی عادت ہے۔ یہ چیزیں باطن کی منوعات ہیں۔ اگر ہم اپنے باطنی احکامات کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر ظاہر کے احکامات کی بھی ابھریں گے اور یہ منہیات ابھریں گے تو پھر ظاہر کے احکامات کی بھی جان نکل جائے گی۔“ (سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد سوم ص ۳۲۵ تا ۳۲۷)

**حضرت جی مولانا محمد انعام الحسن صاحبؒ کا طریقہ بیعت:**  
اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ حضرت جی گھاں کہاں

و ظائف بتلا کر دعا کر دیتے۔” (سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد سوم ص: ۳۳۹)

### بعد بیعت حضرت جیؒ کی تعلیمات:

جس طرح کہ اوپر مذکور ہوا، بیعت ایک نرم نہیں ہے۔ عمل کا تقاضہ ہے۔ اسی لئے اس راست کے تمام شیوخ کا یہ معمول رہا ہے کہ بیعت کے بعد مریدوں کو چند باتوں کی تعلیم کیا کرتے تھے۔ حضرت جیؒ بھی اپنے سے وابستہ ہونے والوں کو چند باتوں کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ اور یوں فرماتے۔

بس بھائیوں کی یہو جن چیزوں سے توبہ کی ہے ان سے بچتے رہیں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اگر ان سے بچتے رہو گے اور یہ پانچ عمل کرتے رہو گے تو انشاء اللہ بھلے بندے بن جاؤ گے۔

پہلی چیز جو ہر مسلمان کے لئے ہے وہ نماز ہے۔ پانچ وقت کی فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اور نماز کی جانکار کو سنا کر صحیح صحیح یاد کرو۔ اور چار وقت کی نفلیں ہیں۔ تہجد، اشراق، چاشت، اواین۔ جہاں تک ہو سکے ان کا اہتمام کرو۔

دوسری چیز اللہ کا ذکر ہے۔ جس میں تین تسبیح صحیح کو اور تین تسبیح شام کو، وہیان سے جی لگا کر پڑھو۔ ایک تسبیح سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ — اور ایک تسبیح درود شریف کی — ایک تسبیح استغفار کی — یہ تین تسبیح صحیح کو اور تین شام کو پڑھنی ہے۔

تیسرا چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ جو بھائی قرآن پاک پڑھئے ہوئے ہیں وہ روزانہ تلاوت کریں اور جو پڑھئے ہوئے نہیں ہیں وہ روزانہ سیکھنا شروع کریں۔

چوتھی چیز یہ فضائل کی کتابیں ہیں۔ ان کو اپنی اپنی مسجدوں میں

کسی نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا اہتمام سے سنتے رہو۔

پانچویں چیز شتوں کا کرنا ہے۔ ہر آٹھ دن میں یہ گشت اپنی بستی میں جماعت بنا کر کرتے رہو۔ مہینے میں تین دن کی جماعت بنا کر آس پاس کی بستیوں میں جاتے رہیں اور سال میں کم سے کم ایک چلے کے لئے نکلتے رہیں۔

عورتوں کے ذمہ جماعت نہیں ہے وہ اپنے اپنے وقت میں اہتمام سے نماز پڑھیں۔ اور جماعت میں نکلنے بھی نہیں ہے، لیکن ملنے جلنے والیوں سے اپنے دین کی، ایمان کی، کلمہ کی، نماز کی، قرآن کی، جنت کی، دوزخ کی، آخرت کی باتیں کرتی رہیں۔ بیکار بات کرنے سے دل مردہ ہوتا ہے اور گھروں سے برکت جاتی رہتی ہے، اور دین کی ایمان کی باتیں کرنے سے دل زندہ ہوتا ہے گھروں میں برکت آتی ہے۔ اور اپنے شوہروں کو رشتہ داروں کو جماعت میں بھیجنے پر آمادہ کریں۔ اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔” (سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد سوم ص: ۳۲۱)

### معمولات کی پابندی اور اس کا اہتمام:

بیعت کے ذریعہ ”ابنے حلقة ارادت“ کو بڑھانا ہی مشائخ کا مقصد نہیں ہوتا بلکہ خدا کے بندوں کو خدا سے جوڑنے کی پوری فکر و کوشش ہوتی ہے۔ اس لئے وابستگان کی اس بارے میں رہنمائی کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تمام مشائخ کی طرح حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب بھی اس بارے میں بڑے فکر مند تھے، ان کی اس طرح کی فکر مندی اور دلسوzi کو ذیل کے اقتباسات میں پڑھئے۔

”حضرت مولانا اپنے سے تعلق بیعت رکھنے والوں کو معمولات میں سُستی و کاملی سے بچنے پر نیز یکسوئی کے ساتھ دعوت و دعا، تلاوت و نوافل اور ذکر و استغفار میں لگے رہنے پر بھر پورا نماز سے متوجہ فرماتے

تھے۔ اور اس راہ کی محنت و مجاہدے پر ہمت بندھاتے ہوئے بتدریج ان کو آگے بڑھاتے رہتے تھے۔

جو لوگ حضرت مولانا سے سلسلہ ارادت قائم کر لیتے، ان کے بارے میں آپ کی پوری کوشش اور توجہ یہ رہتی کہ وہ اپنے اجتماعی اور انفرادی معمولات پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ اس میں کسی قسم کی سستی اور غفلت نہ آنے دیں۔ فرماتے تھے کہ اجتماعی معمولات، انفرادی معمولات کے لئے معین و مددگار بنتے ہیں اور انفرادی معمولات کی پابندی و اہتمام اجتماعی معمولات کے اندر رقوت و طاقت پیدا ہونے کا سبب ہے۔ اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ دن میں وجود میں آنے والے اجتماعی اعمال (گشت، دعوت وغیرہ) کے لئے رات میں انفرادی اعمال (ذکر، گرید و زاری اور دعاء) کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو توہہ واستغفار سے اس کو پورا کر لیا کریں۔ (سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد سوم ص: ۳۲۲)

**سلوک و احسان کے بارے میں آپ کے مکتوبات:**

حضرت مولانا، خطوط کے ذریعہ بھی اپنے وابستگان کو اپنے اصلاح حال کی طرف برابر متوجہ فرماتے تھے۔

”حضرت مولانا اپنے وابستگان کو سلوک و احسان کی اس راہ پر جس شفقت و محبت اور حسن اعتماد کے ساتھ چلاتے تھے اس کا اندازہ ذیل میں دئے ہوئے بعض مکاتیب کے اقتباسات سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ ان مکاتیب میں باطنی اصلاح و تربیت کے حوالہ سے بہت سے کار آمد نکتے اور مفید باتیں بھی قارئین کے علم میں آجائیں گی۔“ (سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد سوم ص: ۳۲۲)

ایک طالب علم کو تحریر فرماتے ہیں۔ ”صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے۔ اب زیادہ سوچنا چھوڑو۔ تبلیغ کے کام کو بھی پورے اصول سے شروع کر دو اور اپنی تعلیم میں مصروف ہو جاؤ۔ ورنہ کہیں تم اس غفلت میں نہ رہو کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ تبلیغ کا کام تو بھی اپنی اصلاح کے لئے ہے۔ اپنی ہی اصلاح نہیں تو تبلیغ کیسی؟“

(سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد سوم ص: ۳۲۵)  
اپنے ایک اور اہل تعلق کو تحریر فرماتے ہیں۔ ”آپ ماشاء اللہ بڑے ہیں۔ اللہ پاک نے سمجھ دی ہے۔ ہمت کو کام میں لا لیں، اور اس ماہ مبارک میں روزہ، نماز، تسبیحات و تلاوت اور صدقہ و خیرات، تعلیم و گشت ان اعمال کا خوب اہتمام کرتے رہیں۔ اور خدا کرے کہ کم از کم ایک چلہ کا وقت فارغ کر کے کسی جماعت میں قریب یا دور کی طرف نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالیٰ سے امید ہے کہ اللہ کے راستے کے مبارک ماحول میں ان سب اعمال کا شوق و رغبت کے ساتھ پورا کرنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے۔“ (ایضاً جلد سوم ص: ۳۲۶)

جناب فاروق احمد عرف ابو الحسن صاحب بنگور کو ایک مکتب میں تحریر فرماتے ہیں۔ ”آپ کا خط ملا۔ احوال و کوائف معلوم ہوئے۔ معمولات کی پابندی کی کوشش مبارک ہے۔ امید ہے کہ دعوت کے مقامی اعمال میں بھی خوب فکر و اہتمام کے ساتھ کوشش کر رہے ہوں گے۔ وساوس کی طرف بالکل دھیان نہ دیں، ان کی پرواہ نہ کریں، اپنے کام میں لگے رہیں۔ آپ نے مزید ذکر کے لئے پوچھا ہے۔ ”اللہ اللہ، تین ہزار مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ اللہ ایک مرتبہ شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعلق نصیب فرمائے اور اخلاص و استقامت کی دلوں سے بھی مالا مال فرمائے۔“ (سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد سوم ص: ۳۲۷)

ایک اور خط میں تحریر فرماتے ہیں — ”..... امید کہ معمولات کی پابندی فرماتے ہوں گے۔ بیعت صرف نام کے لئے نہیں بلکہ کام کے لئے ہے۔ نمازوں، تلاوت، تسبیحات کی پابندی کے ساتھ دونوں تعلیم، گشتوں، تین دن اور چلہ کی خود پابندی فرماتے ہوں گے اور دوسروں کو ان کے لئے تیار کرتے ہوں گے۔ اللہ توفیق دیں، مدد کریں، آسان فرمائیں“۔ (سوانح مولا ناجم انعام احسن صاحب جلد سوم، ص: ۳۵۰)

ایک اور مکتوب میں ایک جگہ بیٹھ کر پوری یکسوئی کے ساتھ ذکر کرنے کو بہتر بتاتے ہیں۔

”خط موصول ہوا۔ احوال سے مطلع ہوا۔ آپ نے تسبیح وغیرہ میں دھیان نہ لگنے کی شکایت کی۔ پہلے جو طریقہ دھیان کا بتایا تھا اسی پر عمل کرتے رہئے۔ انشاء اللہ کچھ دونوں بعد دھیان اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ نیز تسبیحات ایک جگہ بیٹھ کر ہی یکسوئی کے ساتھ بڑھی جائے تو بہتر ہے اور اس کے لئے ایک وقت مقرر کریں تو بہت بہتر ہو گا۔ نیز ایک وقت مقرر کر کے اس دھیان سے پڑھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد کون سالفظ آتا ہے۔ یا اگر تسبیحات کے معنی معلوم ہوں تو ان کے دھیان سے پڑھے۔ چھوٹا درود شریف ”صلی اللہ علیہ وسلم“ ہے جو بتایا گیا ہے۔ اور اگر ہو سکے تو دھیان کے لئے یکسوئی کو بہت دخل ہے۔ اس لئے جہاں تک ہو سکے اس کی مشق کرنے کے لئے جماعت میں نکلا کیجئے۔ مقامی کام میں — تعلیم و گشت اور مہینے کے تین دن میں برابر جڑتے رہئے۔ نیز اپنے قبضہ میں جو کام ہے (اس کو کرتے رہیں) برابر تسبیحات پڑھتے رہئے“۔ (سوانح مولا ناجم انعام احسن صاحب جلد سوم، ص: ۳۵۱)

”..... ذکر بالمحشر کو دوبارہ شروع کرنے کا عزم واردہ بھی معلوم ہوا۔ اس کے لئے بہتر وقت تو تہجد کے بعد کا ہے کہ اس وقت

یکسوئی بھی رہتی ہے اور دماغ بھی فارغ رہتا ہے۔ ورنہ جب بھی اہتمام سے پورا کر کیں مناسب وقت مقرر کر کے پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ جل شانہ استقامت و ترقی عطا فرمائے۔“

(سوانح مولا ناجم انعام احسن صاحب جلد سوم، ص: ۳۵۲)

”تمہارے اپنے معمولات کی پابندی کا علم ہوا۔ آپ نے مزید کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ جو معمولات چل رہے ہیں انہیں کو پابندی سے پورا کرتے رہیں۔ اور دعوت کے اعمال کا اہتمام کرتے رہیں۔ معمولات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں کہ مدرسہ کی خدمات بھی دین ہی کے کام ہیں۔ آپ نے اپنے مدرسہ کے طلبہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، اس کی کیا صورت ہوگی؟ — جو طلبہ بیعت ہونا چاہتے ہیں ان کے نام لکھ کر بچھ دیں، بشرطیکہ وہ اپنی خواہش و طلب سے بیعت ہونا چاہیں، تمہارے کہنے یا زور دینے سے نہ ہوں۔“

(سوانح مولا ناجم انعام احسن صاحب جلد سوم، ص: ۳۵۳)

بعض مرتبہ یہ یعنی ہوتا ہے کہ الحمد للہ میں دین کا خوب کام کر رہا ہوں۔ اور اس میں اتنا مشغول ہوں کہ مجھے ذکر کے اہتمام کا بھی موقع نہیں ملتا۔ ایسا زعم اپنے لئے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک بتاض ہی اس مرض کا علاج کر سکتا ہے۔

ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ — ”حضرت دعوت کی مشغولی میں بعض مرتبہ معمولات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کیا کروں؟ — حضرت اس وقت لیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور ذرا لہجہ بدلت کر فرمایا ’کیوں بھائی فخر سے پہلے کیا کرتے ہو؟‘ بس میں ڈر گیا اور اس روز سے بیشتر معمولات فخر سے قبل ہی پورے کرنے شروع کر دیئے۔ اب الحمد للہ حضرت کی توجہ کی برکت سے میرے معمولات عموماً فخر سے قبل ہی پورے ہو جاتے ہیں۔ اللہم لک الحمد و لک

الشکر۔۔۔ (سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد سوم، ص ۳۶۰-۳۵۹)۔۔۔

بیعت ہونے والوں کے لئے معمولات اور وظائف۔

بیعت ہونے والوں کو آپ کن کن باتوں کی پابندی کی ترغیب و تعلیم دیا کرتے تھے اور کون سے وظائف بتاتے تھے۔ ان باتوں کا جانتا بھی نفع سے خالی نہ ہوگا۔

”طالبین و مسٹر شدین کے لئے آپ کے یہاں وہی سب کچھ تھا جو اپنے جملہ مشائخ اہل حق اور اصحاب معرفت کے یہاں کا معمول و دستور رہا ہے یعنی فرائض سے لیکر سنن و مستحبات تک اور تلاوت قرآن پاک سے لیکر اور ادمنونہ تک کا اہتمام اور رذائل نفس سے حفاظت کے لئے ذکر و شغل کی پابندی۔

آپ نے اپنے مریدین و مشتبین کے نام جو مکاتیب لکھے ہیں، ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اصلاح و تربیت کے سلسلہ میں ان ان چیزوں کا اپنی زندگی میں داخل کرنا ضروری سمجھتے تھے۔

بیعت میں جن چیزوں کا عہد کیا ہے ان کا اہتمام اور جن اعمال کے نہ کرنے کا عہد کیا ہے ان سے احتراز۔

عبدیت، تقاضائے بشریت، خلافت الہیہ اور نیابت انبیاء علیہم السلام کے تعلق سے عائد ہونے والے احکامات کی حقیقت الامکان پابندی۔ اور ان چاروں لائنزوں سے آنے والے حقوق کی حقیقت واسع ادا یگی۔

ظاہر شریعت (نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ) کا پورا پورا اہتمام کرتے ہوئے خالص اللہ جل شامہ کے لئے ان کی ادائیگی کافر۔

صح و شام کی تسبیحات (جن میں ذکر، درود شریف اور استغفار بھی شامل ہے) کا التزام و اہتمام۔

روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اور گھروں میں دینی ماحول پیدا

کرنے کے لئے فضائل کی کتابوں کا سنسناآسانا۔

✿ دعویٰ ماحول قائم کرنے کے لئے گشت میں جانا اور مہینہ کے تین دن اور سال کے چلہ کا اہتمام ہونا۔

✿ مشائخ کے عام اصول اور ضابطہ کے مطابق حضرت مولانا ذکر جہری کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اشغال صوفیہ میں باطن کی صفائی کے سلسلہ میں ذکر بالآخر سے زیادہ موثر شغل ہے۔ (رواہت جناب الحاج ذاکر نادر علی خال صاحب علیہ) لیکن یہ تعلیم ہر شخص کے لئے نہیں بلکہ ان ہی کے لئے تھی جن کے دماغ اور اوقات میں اس کی گنجائش ہو اور وہ پابندی کے ساتھ روزانہ اس کے کرنے والے ہوں۔

حافظ محمد یوسف صاحب (ثاندہ چھپروںی) اپنا ایک واقعہ اور حضرت مولانا کے بتائے ہوئے طریقہ ذکر کے متعلق لکھتے ہیں۔۔۔ ایک مرتبہ میں نے حضرت مولانا محمد یوسف صاحبؒ سے عرض کیا۔ حضرت مجھے کچھ پڑھنے کو بتا دیں تو بر جستہ فرمایا کہ جاؤ مولوی انعام سے پوچھ لو۔ میں حاضر خدمت ہوا اور سلام کے بعد اپنا مدعا عرض کیا اور کہا کہ حضرت جیؒ نے اس مقصد کے لئے بھیجا ہے۔ اس پر آپ نے میری طرف ایک نظر بھر کر دیکھا اور فرمایا تم تو پیار آدمی ہو۔ مجھے آپ کی زبان سے یہ سن کر بڑا تجھ ہوا کیونکہ میں یقیناً اس وقت بیمار تھا اور اس بیماری کا کسی کو علم بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ چار زانو بیٹھو۔ میں بیٹھا تو حضرت نے میرے بائیں گھٹھنے کی رُگ کو ذرا بہر لکوا کر اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے دائیں پیر کے انگوٹھے اور اس کے برابر کی انگلی کو کھول کر اس میں وہ رُگ پکڑ دا۔۔۔ پھر

رہا ہے۔ نیز نوافل، تلاوت وغیرہ کا اہتمام فرماتے ہوئے نماز باجماعت کی پابندی فرمائیں۔ اور مقامی کام میں ۔۔۔۔۔ اہتمام سے شرکت فرماتے رہیں۔

جناب محمد صدیق صاحب (وانہبازی) کو چند مزید ہدایات کے ساتھ ذکر جہری، کی تعلیم اس طرح دیتے ہیں ۔۔۔۔۔

آپ نے جو مزید ذکر کو پوچھا ہے تو اگر آپ پابندی سے کر سکتے ہیں اور ناغمہ نہ ہواں لئے کہ ناغمہ ہونے کی صورت میں جسمانی و روحانی تکلیف بڑھنے کا ندیشہ ہے تو آپ باوضو چار زانو بیٹھ کر ان تسبیحات کو پڑھیں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف اور گیارہ گیارہ بار استغفار اور شروع میں تین مرتبہ چوتھا لکھ پھر دوسرا مرتبہ لا الہ الا اللہ اس طرح کہ ہر دو سویں بار مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہیں۔ پھر چار تسبیح لا اللہ کی پڑھیں۔ پھر چھتیں اللہ اللہ اور پھر ایک تسبیح اللہ اللہ کی اس طرح کل تیرہ تسبیح ہوئیں۔ اور اول و آخر جو پڑھنے کو بتایا ہے اس کو پڑھیں۔ بہتر ہے کہ اگر وہاں کوئی جانے والا ہو تو اس سے پڑھنے کا طریقہ معلوم کر لیں۔ نیز مقامی اعمال میں اہتمام سے شرکت فرماتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں، آسان فرمائیں۔

(سوائی مولانا محمد انعام الحسن جلد سوم ص: ۲۵۷ تا ۲۵۸)

### ذکر کے بارے میں حضرت جی کے خیالات:

ذکر کی لائن کو حضرت جی کس نظر سے دیکھتے تھے اور اس کی کتنی قدر و اہمیت ان کی نگاہ میں تھی اور انہوں نے کتنے اہتمام سے ذکر کی لائن میں مجاہدہ کیا ہے یہ سب کچھ اپنی جگہ پر اپر کی تحریر میں آ گیا ہے۔ اب مزید کچھ لکھنے کی چند اس ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں ذکر کے بارے میں حضرت جی کے چند آراء کا تحریر کیا

نفی و اثبات تلقین کر کے اسم ذات چار سو مرتبہ اللہ اللہ بتلایا،۔

(سوائی مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد سوم ص: ۳۵۳ تا ۳۵۵)

اوپر کے اقتباس سے معلوم ہوا کہ طریقہ ذکر میں رگ کیاس کو پکڑ کر ذکر کرنے کا جو طریقہ خاندانِ چشتیہ میں راجح ہے، حضرت مولانا نے اس طریقہ تک کی تعلیم دی۔ طریقہ ذکر کے دیگر امور کی بھی آپ کے یہاں کافی اہمیت تھی۔ ذیل کے اقتباس سے ان پر روشنی پڑھیں گے۔

”آپ کے ایک مسترشد نے نظام الدین کے قیام میں زبانی طریقہ ذکر معلوم کیا اور پھر اپنے وطن پہنچ کر تحریری طور پر دریافت کیا تو مندرجہ ذیل الفاظ میں آپ نے اس کی تفصیل لکھ کر بھیجی۔

خط ملا۔ حال معلوم ہو کر مسرت ہوئی۔ اللہ رب العزت استقامت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بارہ تسبیح جو بتلائی تھیں ان کی ترتیب پھر بتلاتا ہوں۔ وہ یہ کہ سورہ فاتحہ تین دفعہ، آیۃ الکرسی ایک دفعہ، سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھ کر اپنے چاروں سلسلوں کے حضرات کو بخشیں۔ پھر گیارہ مرتبہ درود شریف، گیارہ مرتبہ استغفار اور یا حسینی یا قیومُ برَحْمَتِكَ أَسْتَغْفِيْثُ أَسْتَلِكَ مِنْ فَضْلِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ أَنْ تُطَهِّرْ قَلْبِيْ عَنْ غَيْرِكَ وَأَنْ تُنَورْ قَلْبِيْ بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ أَبَدًا أَبَدًا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تِينَ مرتبہ پڑھ کر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دو سو مرتبہ اسی دھیان اور ترکیب سے جو کہ میں نے بتلائی تھی۔ اور ہر دو مرتبہ کے بعد مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہہ لیں۔ اس کے بعد لا اللہ چار سو مرتبہ، اس کے بعد اللہ اللہ چھ سو مرتبہ، آخر میں اللہ ایک ضربی ایک سو مرتبہ۔ آخر میں مراقبہ میں بیٹھ جائیں اور دھیان کریں کہ اللہ کا نور دل میں داخل ہو

جانا بھی مفید ہوگا۔

ایک موقع پر ارشاد فرمایا۔

”بارش کا پھر پرا شنبیں ہوتا، زمین پر ہوتا ہے۔ دل کی سختی پھر سے زیادہ سخت ہے۔ دل نرم ہو گا تو بات اثر کریگی۔ اللہ کا نام لینے سے دل نرم ہو گئے تو جنت و دوزخ کی بات دل میں اثر کریگی۔ دل میں نزیلانے کے لئے اللہ باک کا نام لینا ہے۔ تسبیحات کی بابنڈی کرنی ہے۔“ (سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد سوم، ص: ۱۵۷)

”اجتماعی و انفرادی اعمال اللہ جل شانہ کے ذکر کے ساتھ اور اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ اگر کئے جائیں تو اس سے ہمارے اندر نور کی کیفیت پیدا ہوگی۔“ (ایضاً جلد سوم، ص: ۱۵۸)

”ذکر میں سب سے اوپنجی چیز لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اس پر خدا کے یہاں سے کیا ملتا ہے۔ ساری دنیا کو سونے سے بھر دیا جائے تو اس سے آدمی دوزخ سے نہیں بچ سکتا۔ لیکن اس کلمہ کو سچے دل سے کہنے پر وہ دوزخ سے بچ جائے گا۔“ (ایضاً جلد سوم، ص: ۱۵۸)

”فرمایا۔— ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن۔ ذکر کا ظاہر تسبیح پڑھنا ہے اور اس کا باطن یہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس کا دھیان ہو۔“ (سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد سوم، ص: ۱۵۷)

”فرمایا۔— ذکر کا اہتمام کیا جائے۔ جتنا ذکر اہتمام سے کیا جائے گا اتنا دھیان پیدا ہوگا اور جتنا دھیان پیدا ہوگا اتنا ہی خدا کا حکم پورا کرنے کی فکر ہوگی۔ اور جتنی فکر ہوگی اتنا ہی صحیح کرنے کا خیال ہوگا۔“ (ایضاً جلد سوم، ص: ۱۵۸)

ارریکوٹ میں اجتماع کے موقع پر احتقر (قطب الدین ملا) اپنے ایک دوست

کو جو حضرت جیؒ سے بیعت تھے لیکر حضرت جیؒ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ حضرت یہ آپ سے بیعت ہیں اور ذکر معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرتؒ نے بارہ تسبیح پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ اور اہتمام سے ذکر کرنے کی ترغیب دی لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ”دیکھو بھی آدمی بڑے کاذک کرتے کرتے خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ خیال رکھنا۔“ — حضرت جیؒ کی کتنی باریک نگاہ تھی کہ جہاں عام طور پر کسی کی نگاہ نہیں جاتی ان تحقیقوں کو بھی دیکھ لیتے تھے۔

### حضرت جیؒ کی فکروں کی وسعت و اعتدال:

فکروں کی وسعت یہ ایک بڑی دولت ہے۔ جس کی وجہ سے امت میں اتحاد پیدا ہوتا ہے اور مختلف طبقات قریب ہوتے چلتے جاتے ہیں۔ اور اعتدال تو اسلام کا خاصہ ہے۔ اسلام، جس دین کو کہتے ہیں، اس کے ہر عمل میں اعتدال رکھا گیا ہے۔ اگر اعتدال ملحوظ نہ رہے تو ہر طرح کا انتشار اور خلفشاں پیدا ہو کر دین ہی زندگی سے نکل جائے۔ غلوٰ ہر زمانہ میں تفرقہ و انتشار کا اور گمراہیوں کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح دینی محنتوں کو ہر طرح کی غلوٰ میزیوں سے بچا کر اعتدال کے ساتھ کرنا ہے، جو مطلوب ہے۔ حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحبؒ کے کملات میں سے یہ بھی ہے کہ اعتدال کی زبان بولتے تھے۔ آپ کی زبان دعویوں کی نہیں، دعوت کی تھی۔ ہر طرح کی غلوٰ میزی سے احتراز کر کے اعتدال کے ساتھ دعوت کو پیش فرماتے تھے۔ آپ کی —

”دعویٰ بصیرت اور اصابت فکر کی سب سے مضبوط اور پختہ دلیل یہ ہے کہ آپ دین کے کسی ایک ہی شعبہ کے ترجمان اور داعی نہیں تھے۔ بلکہ تمام دینی شعبوں اور گوشوں کی مکمل رعایت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس دعوت و تبلیغ کے ذریعہ ایک سالخ معاشرہ اور اعمال سے مالا مال ایک خالص دینی و روحانی ماحول پیدا کرنا چاہتے تھے چنانچہ آپ مختلف مجالس اور اجتماعات میں بڑے اعتدال

دُو شوق کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ — ہم اس دعوت والے کام کے ذریعہ یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت حضور اکرم ﷺ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت جو اس امت کی (دنیٰ و ایمانی) حالت تھی، اس حالت پر تمام امت آجائے۔

اسی طرح آپ کی دعاؤں میں یہ فقرہ کہ — اے اللہ! اس نقل و حرکت کے ذریعہ دین کے تمام شعبوں کو زندہ فرمائے۔ اس بات کو پورے طور پر واضح کرتا ہے کہ آپ کی نگاہ پورے دین پر تھی اور اس دعوت کے ذریعہ پورے دین کے احیاء کی کوشش آپ کے پیش نظر تھی۔ موجودہ زمانے میں دین کی حیات کے جتنے شعبے اور طریقے ہیں، خواہ وہ درس و تدریس ہو یا تصنیف و تالیف اور وعظ و ارشاد، دینی مدارس اور علمی جامعات ہوں یا سلوک و احسان کی راہ سے تزکیہ و تجلیہ اور بیعت و طریقت، حضرت مولانا کا ان سب شعبوں سے براہ راست اور بہت قریتی تعلق تھا۔ آپ نے حکمت و تدبیر کے ساتھ ہمیشہ اس کی کوشش فرمائی کہ دعوت و تبلیغ کی شکل میں چلنے والا یہ عمل نبوت، دین کے ان تمام شعبوں کے ساتھ مریوط ہو کر چلتا رہے تاکہ ایک دوسرے سے تقویت پہونچے۔ (سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد سوم ص ۱۳۸ تا ۱۴۹)

### پورے دین کی محنت:

آپ نے پرانوں کے ایک جوڑ کے موقع پر فرمایا تھا کہ ہماری نیت وہی ہوئی چاہئے جو ہمارے امام یعنی ہمارے نبی ﷺ کی تھی۔ آپ کی نیت یہ تھی کہ پوری امت میں پورا دین قیامت تک کے لئے زندہ ہو جائے۔ اس لئے —

”دعوت و تبلیغ کی راہ سے دین کے معاملہ میں آپ کا طرز فخر صرف اسلام کے چندار کان کو زندہ کرنا نہیں تھا بلکہ روشن ضمیری کے ساتھ اس دینی

غیرت اور ایمانی حرارت کو پیدا کرنا تھا جو ایک مسلمان کو ایمان و یقین کی بھرپور دولت عطا کر کے اعمال و اخلاق کی لائن سے اس کو اتنا مضبوط کر دے کہ جلوٹ و خلوٹ میں اس کا رابطہ برابر خدا کے ساتھ قائم رہے۔ نیز دعوت و تبلیغ کی راہ سے آپ کا اصلی ذوق وجود ان یہ تھا کہ امت کو اعمال صالحہ پر کھڑا کیا جائے اور ان میں دین کے بنیادی و اساسی اعمال نماز، ذکر و تلاوت، تسبیحات، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا شوق پیدا کیا جائے۔ اسی فکر و نظریہ کے تحت آپ اپنی تقریروں، تحریروں میں اعمال پر خصوصی توجہ فرماتے تھے اور چاہتے تھے کہ امت کے اندر سو فیصد اعمال زندہ ہو جائیں۔ بالخصوص اسلام کے بنیادی اور اساسی فرض، نماز کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اتنی محنت کی جائے کہ ہر علاقہ میں سو فیصد نمازی بن جائیں۔ ایک موقع پر آپ نے اسی فکر و نظریہ کی وضاحت میں یہ فرمایا تھا کہ ہم تینوں کے زمانہ میں مختلف چیزوں پر پر زور رہا ہے۔ بڑے حضرت جی (حضرت مولانا محمد الیاس صاحب) کے زمانہ میں آخرت اور جنت و جہنم پر زور تھا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحبؒ کے زمانہ میں قربانی اور مجاہدات پر زور رہا۔ اور میرے زمانہ میں اعمال پر زور ہے۔“

(سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد سوم ص ۱۴۹ تا ۱۵۰)

### استخلاص:

عمل اخلاص کے ساتھ استخلاص چاہتا ہے۔ جو بھی عمل کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں تو وہ عمل جاندار بنتا ہے۔ ایک موقع پر مولانا عبد اللہ صاحب بلیادیؒ نے پرانوں کے ایک جوڑ میں فرمایا تھا کہ نماز پڑھ رہے ہوں تو سب کا خیال چھوڑ کر نماز ہی کا خیال رہے۔ پھر عمل کے استخلاص کے بارے میں فرمایا کہ قیام میں ہوں تو قیام کا استخلاص یہ ہے کہ رکوع کا خیال نہ ہو، اور رکوع میں ہوں تو اس کا استخلاص یہ

ہے کہ سجدہ کا خیال نہ رہے۔ سجدہ کا استخلاص یہ ہے کہ قعدہ کا خیال نہ ہو۔ بہر حال جس عمل میں بھی ہوں اس کا استخلاص یہ ہے کہ دوسری بات کی طرف دھیان نہ رہے، اور پوری یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو پورا کریں۔ کسی عمل کا استخلاص کسی دوسرے عمل کا انکار نہیں کرتا بلکہ جس عمل میں بھی لگے ہوں اس عمل میں یکسوئی کا تقاضا کرتا ہے۔ ذکر کا استخلاص یہ ہے کہ تہائی کی جگہ میں بیٹھ کر خدا کی طرف متوجہ ہو کر اور خدا کا دھیان جمع کر کے ذکر کیا جائے۔ تعلیم کا استخلاص یہ ہے کہ تعلیم میں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھتے نہ رہیں کہ یکسوئی ختم ہو جائے گی، بلکہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ تعلیم کو سنتے رہیں۔ دعوت کیا ہے؟ اور اس کا استخلاص کیا ہے؟ اس کو اکابرین کی صحبت میں رہ کر سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اکابرین استخلاص کا مطلب کچھ اور بتائیں اور ہم کچھ اور سمجھ لیں۔ دعوت کے کام میں پورے استخلاص کے ساتھ لگنے کے باوجود ہمارے اکابرین نے بیعت کا سلسلہ بھی چلایا ہے اور بیعت والے اس معروف طریقے کو اختیار کرتے ہوئے، اپنے تبعین کو ذکر کی تلقین بھی کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ امور یعنی بیعت کرنا اور ذکر کا طریقہ معلوم کر کے ذکر کرنا اور ذکر جہری کرنا وغیرہ دعوت والے کام کے استخلاص کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ باتیں اگر دعوت کے کام کے استخلاص کے خلاف ہوتے تو یقیناً یہ حضرات اس سلسلہ کو نہ چلاتے۔ ملحوظ رہے کہ — ذکر میں لگنا اور اس کی محنت کرنا — ان باتوں کو فکروں کا بٹانا اور فکروں کا انتشار نہیں کہا جاسکتا بلکہ فکروں میں یکسوئی اور اعمال میں استخلاص پیدا کرنے ہی کے لئے یہ امور ضروری ہیں۔ اس لئے ذکر والی محنت، ذکر کی جگہیں اور بیعت وغیرہ کو استخلاص کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش دعوت کے کام کو بدنام کر دیگی اور بلا جہا ان باتوں کو زراعی مسئلہ بنانا، دعوت کے کام میں انتشار پیدا کرنا ہے۔ ذہن میں رہے جب کسی قوم کی بر بادی کا وقت آتا ہے تو اس کی عملی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ قوم بحث و مباحثہ میں بٹلا ہو جاتی ہے۔

## دین میں ذکر کی اہمیت

### ذکر اللہ کی کثرت کا حکم اور اس کی حکمت

اسلام کے ارکان پانچ عبادتیں ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، لیکن پورے قرآن میں ان میں سے کسی عبادت کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم نہیں، مگر ذکر اللہ کے متعلق قرآن کریم کی متعدد آیات میں بکثرت کرنے کا ارشاد ہے سورہ انفال، سورہ جمعہ میں اور اس سورت (احزاب) میں **وَاللَّذِكْرُ بِنِ اللَّهِ أَكْثَرٌ وَاللَّذِكْرُ فِي الْأَذْبَابِ**۔

اس کی حکمت غالباً یہ ہے کہ اول تو ذکر اللہ سب عبادات کی اصل روح ہے، جیسا کہ حضرت معاذ بن انسؓ کی روایات سے آیا ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجاہدین میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کس کا ہے، تو آپؐ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، پھر پوچھا کہ روزہ داروں میں کس کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، پھر اسی طرح نماز، زکوٰۃ اور حج و صدقہ کے متعلق سوالات کئے، ہر مرتبہ آپؐ نے یہی فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے، وہی زیادہ مسحتی اجر ہے (رواه احمد اہن کیش) دوسرے وہ سب عبادات میں سب سے زیادہ سہل ہے، شریعت نے بھی اس کے لئے کوئی شرط نہیں رکھی، وضو، بے وضو، لیٹے، بیٹھے، چلتے پھرتے، ہر وقت میں ذکر اللہ کیا جاسکتا ہے، وہ نہ انسان سے کوئی محنت لیتا ہے، نہ کسی فرصت کو مقتضی ہے، اور اثر و فائدہ اس کا اتنا عظیم ہے کہ ذکر اللہ کے ذریعہ دنیا کے کام بھی دین اور عبادات بن جاتے ہیں، کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا، گھر سے نکلنے اور واپس آنے کی

دعا میں، سفر میں جانے اور دورانِ سفر اور وطن کی واپسی کی دعائیں، کوئی کاروبار کرنے سے پہلے اور بعد میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ دعاوں کا حاصل ہی یہ ہے کہ مسلمان کسی وقت اللہ سے غافل ہو کر کوئی کام نہ کرے، اور اس نے یہ ما ثور دعا میں اپنے کاموں میں پڑھ لیں تو وہ دنیا کے کام بھی دین بن جاتے ہیں۔“  
(مفتی محمد شفیع۔ معارف القرآن جلد ۷، فتح مص ۱۳۵-۱۳۳)

### جہاد میں بھی کثرتِ ذکر کا حکم اور اس کی ضرورت:

”کفار و مشرکین اور دشمنانِ اسلام کے ساتھ اڑانے اور جہاد کے وقت کثرتِ ذکر کی سخت ضرورت ہوا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِيَّةً فَاثْبُتوْا وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝**

اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کروتا کہ تم فلاح پاؤ (سورہ آشٰع، آیت ۲۵، پ ۱۰، ع ۲)۔

انسان کی اصل قوت دل کی قوت ہے اور دل کی قوت ایمان سے حاصل ہوتی ہے اور ذکر اللہ کی کثرت ایمان کوتا زہ رکھتی ہے اور اس کے نور کو بڑھاتی رہتی ہے اس لئے ذکرِ الہی، صبر و استقامت اور ثابت قدیمی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس لئے جب حالات سخت ہوں اور جن میں صبر و استقامت کی زیادہ ضرورت ہو وہاں زیادہ سے زیادہ ذکرِ اللہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے موقع میں کثرتِ ذکر کا حکم فرمایا ہے۔ اور صحابہ کرام کا سب سے بڑا انتہیار نماز، تہلیل و تسبیح و تکبیر وغیرہ اور اذکار کی کثرت تھی۔“ (ذکرِ اللہ کے فضائل و مسائل ص ۲۳)

### دعوت و تبلیغ اور دینی جدو جہد کے موقع پر کثرتِ ذکر کا حکم:

”دعوت و تبلیغ ہو یاد میں اسلام کیلئے کوئی اور جدو جہد ہو اس میں بھی کثرتِ ذکر مطلوب ہے بلکہ ایسے موقع پر ذکر میں کوتا ہی بھی دینی جدو جہد کو بے نور اور بے روح بنا دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو فرعون کے پاس بھیجا تو ان دونوں کو جو خاص تاکید کی تھی وہ کثرتِ ذکر اور ذکر میں کوتا ہی نہ کرنے کی بدایت تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ:

**إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِالْيَتْمَ وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي ۝**

(اے موسیٰ) تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور تم دونوں میرے ذکر میں سستی نہ کرنا (سورہ ملائیل، آیت ۳۲، پ ۱۶، ع ۴)

مطلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں پوری مستعدی دکھلاو اور تمام احوال اور اوقات میں عموماً اور دعوت و تبلیغ اور دینی جدو جہد کے وقت خصوصاً اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو اور اس میں سستی نہ کرو۔“ (ذکرِ اللہ کے فضائل و مسائل ص ۲۳)

### صلح اور داعی کیلئے کثرتِ ذکر کی ضرورت:

”یاد رکھیں کہ دعوت و تبلیغ کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں کیونکہ اس کی طرف اور اس کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے لہذا دعوت دینے والے کا جس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضمبوط ہو گا اسی قدر اس کی دعوت میں جان اور روح و قوت ہو گی اور اسی قدر اس سے خیر پھیلے گا لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو جائے تو اس کی یہ دعوت بے روح اور بے جان ہو جاتی ہے اور اگر یہ تعلق بالکل ہی منقطع ہو جائے تو پھر وہ دعوت بالکل شیطانی دعوت بن کر رہ جاتی ہے اگرچہ

اس میں نام اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کا لیا جائے۔ اس لئے ایسے مواقع پر اور زیادہ ذکرِ الہی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ذکرِ الہی ہی تعلق مع اللہ کا محافظ ہے اور اس کے سبب یہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہتا ہے۔ نیز یہی کثرتِ ذکر ہی اہل اللہ وداعیانِ حق اور مصلحین کی کامیابی کا بہت بڑا سبب بھی ہے اور شمن کے مقابلہ میں بہترین اور اول نمبر کا ہتھیار بھی ہے۔ اور اس سے انسان کے اندر عزم و ہمت پیدا ہوتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے۔” (ذکر اللہ کے فضائل و مسائل ص ۲۲-۲۳)

### اہل قلوب اور مقام قطبیت

اہل ذکر کی قوت قلبی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور وہ دینی محنت میں اپنی قلبی قوت کو بھی استعمال فرماتے ہیں۔ جس کی وجہ سے راہِ دعوت میں کھڑی ہونے والی بڑی سی بڑی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں اور ہدایت قبول نہ کرنے کی فسمیں کھانے والوں کو بھی ہدایت مل جاتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ظاہری تدبیر و اور کوششوں سے کہیں زیادہ ”تعلقِ مع اللہ“ والی یہ قلبی قوتیں ہی زیادہ موثر ہوتی ہیں۔ اس بارے میں حضرت مولانا محمد الیاس فرماتے ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ”من رای منکم منکرا فلیغیرہ بیده فان لم یستطع فلسانہ فان لم یستطع فبلقبه“ کے آخری جز فبلقبه کا ایک درجہ اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ازالہ منکر کے لئے اصحاب قلوب اپنی قلوب کو استعمال کریں، یعنی ہمت و توجہ کو کام میں لا لیں۔

پھر اسی ذیل میں فرمایا۔۔۔ امام عبد الوہاب شعرانی نے مقامِ قطبیت حاصل کرنے کی ایک تدبیر لکھی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر جہاں جہاں جو جو معروفات میں ہوئے ہیں اور مردہ

ہو گئے ہیں ان کا تصور کرے پھر دل میں ان کے مٹنے کا ایک درمحسوس کرے اور پورے الحاج اور تضرع کے ساتھ ان کے زندہ اور راجح کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اپنی قلبی قوت کو بھی ان کے احیاء کے لئے استعمال کرے۔۔۔ اسی طرح جہاں جہاں جو جو منکرات پھیلے ہوئے ہیں ان کا بھی دھیان کرے اور پھر ان کے فروع کی وجہ سے اپنے اندر ایک سوزش اور دکھ محسوس کرے پھر پورے تضرع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان کو مٹا دینے کیلئے دعا کرے اور اپنی ہمت و توجہ کو بھی ان کے استعمال کے لئے استعمال کرے۔

امام عبد الوہاب شعرانی نے لکھا ہے کہ ”جو شخص ایسا کرتا رہے گا انشاء اللہ وہ قطب عصر ہوگا۔“ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس ص ۷۰-۷۱)

جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے روکے اس سے بڑھکر ظالم کون ہوگا؟  
” بلاشبہ جو لوگ مختلف جیلوں و بہانوں سے لوگوں کو ذکرِ الہی سے روکتے ہیں وہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ آخر اس سے بڑھکر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو دین کے نام پر لوگوں کو یادِ الہی سے روکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا إِسْمُهُ وَسَعَى فِيْ خَوَابِهَا (سورۃ بقرہ، آیت ۱۱۳، پ ۱۴)

اور اس سے بڑھکر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روکے کو وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان کے دیران کے دیران کی کوشش کرے۔“ (ذکر اللہ کے فضائل و مسائل ص ۳۳۹)

### ذکر کی مجلسیں:

ذکر کی اسی محنت کے لئے اہل اللہ کے یہاں ذکر کی مجلسیں بھی ہوتی ہیں۔  
حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے زمانہ میں اہل ذکر حضرات تھے جو اہتمام سے

ذکر کیا کرتے تھے۔ میانچی محراب نے ایک بار فرمایا تھا کہ حضرت جیؐ، میں اللہ کا نام لینا سکھاتے تھے۔

### حضرت مولانا محمد منظور نعماٰنی اور مجلسِ ذکر:

حضرت مولانا محمد منظور نعماٰنی ایک حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ —  
اس حدیث سے صراحةً معلوم ہوا کہ اللہ کے کچھ بندوں کے  
ایک جگہ جم ہو کر ذکر کرنے کی خاص برکات ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ  
رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح میں فرمایا ہے — اس میں  
کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جم ہو کر ذکر وغیرہ  
کرنا رحمت و سکینت اور قرب ملائکہ کا خاص وسیلہ ہے — اور ایک  
دوسری حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ: معلوم ہوا کہ اللہ کے کچھ  
بندوں کا ایک جگہ بیٹھ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اس کی باتیں کرنا  
اس کی حمد و تسبیح کرنا اللہ تعالیٰ کو بیدار پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص  
فرشتوں کے سامنے ایسے بندوں کیلئے اپنی رضا کا اظہار فرماتا ہے۔  
اللهم اجعلنا من هم (معارف الحدیث جلد ۵ ص ۲۸ و ۳۱)۔

### مجلسِ ذکر اور ان کے فوائد

”ذکر اللہ کی مجلس کا انعقاد و قیام بہت مبارک کام ہے اور قرآن  
و حدیث میں ان کی ترغیب و تائید اور بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں  
ان مجلس کے چند فوائد یہ ہیں۔

ذکر کی مجلس وہ باغ ہیں جن میں دلوں کی آیاری ہوتی ہے اور یہ  
ایمانی و روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں۔

ان کی وجہ سے قلوب اللہ تعالیٰ کی طرف مائل اور متوجہ ہوتے ہیں۔

﴿ ان کی وجہ سے دوسرا لوگوں کو بھی ذکرِ الہی کی ترغیب ہو جاتی ہے۔  
ان مجالس کی وجہ سے کم ہمتوں کی ہمتیں بڑھ جاتی ہیں اور ذکرِ الہی  
پر استقامت نصیب ہوتی ہے۔

﴿ صاحبِ دل لوگوں کے ذکر اور روحانی موجوں میں، غافل لوگوں کو  
اللہ تعالیٰ کی یاد اور دل کی بیداری حاصل ہو جاتی ہے۔

﴿ مجلسِ ذکر کے تمام ذاکرین سے جو قلبی نور اور مہک جم جم ہو جاتی ہے وہ  
ہر ایک شریکِ مجلس میں جنمگا اٹھتی ہے جس کی وجہ سے ہر ایک کو حسپ  
استعداد اور حسپ اخلاص ذکرِ الہی میں رسونخ اور پختگی حاصل ہوتی ہے۔

﴿ ان مجالس پر روحانی اور نورانی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان کی  
روحانیت اور نورانیت سے یہ مجلس اور زیادہ پر نور اور دلوں کے  
اطمینان وطمینانیت کا سبب بنتی ہے۔

﴿ مجلسِ ذکر وہ روحانی حصار اور قلعے ہیں جن کے ذریعہ انسان  
نفس و شیطان کے وارستے بچ سکتا ہے۔

﴿ مجلسِ ذکر سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور شرکاءِ مجلس کی بخشش  
فرماتا ہے اور ان کی برائیوں کو نکیوں سے بدل دیتا ہے۔

﴿ مجلسِ ذکر جنت کے باغ ہیں۔ جوان میں شریک ہوتا ہے گاہہ روز  
محشر میں موتیوں کے مبروں پر ہو گے اور انکے چہروں میں نور چمکتا ہو گا۔

﴿ ذاکرین کے لئے جہنم اہو گا وہ اس جہنم کے کیچھے جائیں گے  
اور ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو گے اور جنت کے بالاخانوں اور  
بانغوں میں رہیں گے۔

﴿ مجلسِ ذکر کے یہ چند فوائد ذکر کرنے گئے۔ احادیث میں اس کے  
علاوہ اور بھی بہت سے فوائد و فضائل بیان ہوئے ہیں۔

### بِنَجْلَهِ وَالْمَسْجِدِ مِنْ كَزِّ تَبْلِغِ میں ذَكْرِ جَهْرٍ وَالْمَجْلِسِ ذَكْرٌ:

امام الجاہدین حضرت مولانا عبد الحفیظ ملتی دامت برکاتہم اپنے رسالہ ”مجالس ذکر جہری“ میں فرماتے ہیں کہ:

جن لوگوں نے امام التبلیغ اسوہ السلف الصالحین حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی کا زمانہ دیکھا ہے ان سے اس سیاہ کارنے بالتواتر سننا کہ بنگلہ والی مسجد ”مرکزِ تبلیغ“ میں ہمیشہ معقول تھا کہ لوگ آخر شب میں عموماً سب اٹھ کر تہجد کے نوافل میں مشغول ہو جاتے اور فجر کی اذان سے تھوڑی دیر قبل سے لیکر فجر کی جماعت کھڑی ہونے تک (جو کہ اسفار میں ہوتی تھی) اکثر لوگ مسجد میں اور باہر صحن میں اور برآمدے میں ذکر جہری میں عموماً مشغول ہو جاتے۔ یہ منظروں سیاہ کار نے خود بھی ۱۹۵۹ء اور ۱۹۶۰ء میں دیکھا ہے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی کے زمانہ میں کہ فجر کی اذان سے لیکر فجر کی جماعت کھڑے ہونے تک دہلی مرکز نظام الدین بنگلہ والی مسجد میں کافی لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ذکر جہری میں مشغول رہتے تھے ان میں سے کچھ مسجد کے اندر رہتے تھے اور کچھ باہر مگر ان سب کی آواز سے مسجد اور اس کے باہر کا سارا حصہ ذکر جہری سے گونجا رہتا تھا۔ مجالس ذکر جہری میں (ذکر اللہ کے فضائل و مسائل ص ۳۲۹-۳۳۰)

حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب ”عصر کے بعد باہر کے حصے میں تشریف رکھتے تھے۔ اہل تعلق آجاتے اور خاموش ذکر میں مشغول ہو جاتے۔ اور وہ خود بھی ذکر میں مشغول رہتے۔ اور مجلس پر عجیب سکون و سکینت کی کیفیت طاری رہتی۔ مغرب کے قریب تک یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ آج بھی اکابر حضرات یکمیوں میں بیٹھ کر ذکر بالچھر کرتے ہیں جس کے بارے میں حضرت جی ثالثؑ نے فرمایا کہ اشغال صوفیہ میں باطن کی صفائی کے سلسلہ میں ذکر بالچھر سب سے زیادہ موثر مشغل ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی محنت اور مشق کے بغیر ذکر کے لفظ کو حاصل کرنا مشکل ہے۔

مجالس ذکر کے مرکز، مساجد اور خانقاہیں ہیں:

”اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کے روحانی تسلسل کی حفاظت اور بقاء اور افراد کے اخلاق و اعمال کا تزکیہ انہی روحانی مرکز مساجد اور خانقاہوں میں ہوا ہے اور ان مرکزوں سے دین اسلام کے ہر شعبے میں کام کرنے والوں نے ایمان و یقین، اخلاق و احسان، تعلق مع اللہ اور تقویٰ و پرہیز گاری کی روح کو حاصل کیا۔

چنانچہ جتنے مجددین امت اور مصلحین امت گزرے ہیں سب کے سب انہی مرکزوں اور خانقاہوں کے تربیت یافتہ ہیں مثلاً امام شاہ ولی اللہ، مجدد الف ثانی، امام شاملؒ، سید احمد شہیدؒ، امام سنویؒ۔ فرنگ اور انگریز کے ساتھ لڑنے والے شیخ المشائخ مجاہد ملت حضرت حاجی امداد اللہ، بانیؒ، دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، حضرت شیخ الہندؒ، حضرت حسین احمد مدیؒ، حضرت حکیم الامم مولانا اشرف علی تھانویؒ اور بانیؒ تبلیغ جماعت حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاؒ مہاجر مدینی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اور انگریز سے لڑنے والے پاکستان کے صوبہ سرحد کے امام الجاہدین حضرت مولانا عبد الغفور سواتیؒ، حضرت مولانا محمد عمر شاہ عرف صاحب مبارک کربونگ شریف، حضرت حاجی تر نگریؒ اور فاریح کشمیر حضرت مولانا حاجی محمد امین صاحبؒ وغیرہ وغیرہ۔

یہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے انہی مرکزوں اور خانقاہوں میں تربیت پائی تھی اور آج بھی صحیح معنوں میں جو حضرات کفر و شرک کے علمبرداروں یہود و ہندو اور انگریز کے خلاف لڑتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو انہی مرکزوں کے تربیت یافتہ ہیں۔ (ذکر اللہ کے فضائل و مسائل ص ۳۳۰-۳۳۱)

## دیگر مشائخ کی مجالس ذکر

یہ تو ہمارے دعویٰ اکابرین کا معمول رہا۔ دیگر اہل ذکر مشائخ کے بیان بھی روزانہ یا ہر ہفتہ ذکر کی مجالس ہوتی ہیں۔ ان مجالس میں ذکر کے علاوہ چند اصلاحی باتیں بھی کہتی ہیں۔ ہمارے تبلیغی اکابرین نے ان حضرات کو نہ بیعت سے روکا ہے اور نہ ذکر کی مجلسوں سے روکا ہے۔ بلکہ اس بات کی فکر کی ہے کہ وہ حضرات بھی اپنے حلقوں کے ساتھ دعوت کے اس عظیم کام میں تعادن فرمائیں۔ ہمارے علم میں ایسے صاحب اجازت حضرات بھی ہیں جنہیں کسی اور طرف سے اجازت ملی تھی۔

انہوں نے حضرت جیؒ سے پوچھا کہ میں فلاں بزرگ کی طرف سے اجازت بیعت ہے کیا ہم بیعت کریں؟ — تو فرمایا کہ جب تمہیں بیعت کرنے کی اجازت ہے تو ضرور کریں۔ اور چند نصائح بھی فرمائیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ — ہدایا کے قبول کرنے میں حص کا پہلو نہ ہوا اور انکار کرنے میں کہرا کا پہلو نہ ہو۔

چند حضرات ایسے بھی ہیں جن کا تعلق دعوت کے کام سے بھی ہے اور وہ صاحب اجازت بھی ہیں۔ یہ حضرات تو پوری فکروں کے ساتھ دعوت کے کام میں لگے ہیں اور اپنے حلقہ کو اس کام کی طرف پوری قوت کے ساتھ متوجہ فرماتے ہیں۔ اور یہ حضرات ذکر کی مجلسیں بھی لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے تبلیغی اکابرین نے کبھی ان سے یہ نہیں پوچھا کہ کس کے مشورہ سے یہ کر رہے ہو۔ بلکہ بعض کچھ فہم لوگوں نے اکابرین سے ان حضرات کی شکایت بھی کی اور درخواست بھی کہ یہ حضرات مجازین فلاں جگہ بیعت نہ لیا کریں۔ اور ذکر کی مجلسیں نہ لیں اور اس مقصد کے لئے سفر نہ کریں تو تبلیغی اکابرین نے صاف فرمایا کہ ہم کسی کو ان باتوں سے روکتے نہیں ہیں بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی دعوت کے کام میں لگر رہیں۔

## تبلیغی اکابر کی طرف سے علماء و مشائخ کی قدردانی

الحمد للہ تبلیغی اکابرین فکروں کی بڑی وسعت رکھتے ہیں اور ان کے قلوب میں مشائخ کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاسؒ کی حضرت مولانا شریدر احمد گنگوہؒ اور ان کے خلافاء، حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوریؒ، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ اور حضرت مولانا محمد زکریاؒ سے بڑی عقیدت و محبت تھی۔ وہ ٹوٹ کر ان حضرات کا احترام کرتے تھے۔

مولانا محمد الیاسؒ کا نیازمندی کا تعلق سب سے رہا  
فرماتے ہیں — میری نیازمندی کا تعلق اپنے زمانہ کے سب ہی<sup>۱۳۳</sup>  
بزرگوں سے رہا اور الحمد للہ سب کی عنایات اور سب کا اعتناد مجھے حاصل  
رہا۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ ص ۲۵)

علماء کی خدمت میں استفادہ کی نیت سے جائیں  
فرماتے ہیں کہ — ہمارے عام کارکن جہاں بھی جائیں وہاں  
کے ہقانی علماء و صلحاء کی خدمت میں حاضری کی کوشش کریں۔ لیکن یہ  
حاضری صرف استفادہ کی نیت سے ہو۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ ص ۲۵)

علماء پر اعتراض سخت چیز ہے

ایک عالمی مسلمان کی طرف سے بھی بلا وجہ بدگمانی ہلاکت میں  
ڈالنے والی ہے، اور علماء پر اعتراض تو بہت سخت چیز ہے۔  
پھر فرمایا — ہمارے طریقہ تبلیغ میں عزت مسلم اور احترام علماء  
بنیادی چیز ہے، ہر مسلمان کی بوجہ اسلام کے عزت کرنا چاہئے، اور علماء کا  
بوجہ علم دین کے بہت احترام کرنا چاہئے۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ ص ۵۶)

مبلغین، اہل علم و ذر کی صحبت سے مستفید ہوں

علم اور ذکر کا کام بھی تک ہمارے مبلغین کے قبضہ میں نہیں آیا اس کی مجھے بڑی فکر ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو اہل علم اور اہل ذکر کے پاس بھیجا جائے کہ ان کی سرپرستی میں تبلیغ بھی کریں اور ان کے علم و صحبت سے بھی مستفید ہوں۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس ص ۵۶)

حضرت تھانویؒ نے بڑا کام کیا ہے

حضرت مولانا محمد الیاسؒ کو حضرت تھانویؒ سے جو قبیل تعلق تھا اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ ان کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے تھے۔ ایک بار فرمایا —

حضرت مولانا تھانوی (رحمۃ اللہ علیہ) نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس ص ۵۸)

حضرت تھانویؒ کے لوگوں سے اور ان کی کتابوں سے استفادہ کیا جائے

حضرت مولانا محمد الیاسؒ نے کارکنان میوات کو ایک خط تحریر فرمائے چند با توں کی ہدایات کی تھیں۔ اس مکتوب میں یہ بھی تھا کہ —

(۸) حضرت تھانویؒ کیلئے ایصالِ ثواب کا بہت اہتمام کیا جاوے، ہر طرح کی خیر سے ان کو ثواب پہنچایا جائے، کثرت سے قرآن شریف ختم کرائے جائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ سب اکٹھے ہو کر ہی پڑھیں بلکہ ہر شخص کا تھائی میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تبلیغ میں نکلنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اس لئے اس صورت سے زیادہ پڑھاؤ۔

(۹) حضرت تھانویؒ سے منتفع ہونے کیلئے ضروری ہے کہ ان کی مج بت ہو اور ان کے آدمیوں سے اور ان کی کتابوں کے مطالعہ سے منتفع

ہوا جاوے۔ ان کی کتابوں کے مطالعہ سے علم آؤے گا اور ان کے آدمیوں سے عمل..... (مکاتیب حضرت مولانا شاہ محمد الیاس ص ۱۳۷-۱۳۸)

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے ان ارشادات سے بخوبی معلوم ہوا کہ علمائے حقانیین اور مشائخؒ کی کتابوں سے استفادہ نفع سے خالی نہیں ہے۔

حضرت مولانا محمد یوسف صاحبؒ بھی اپنے اکابر سے انتہائی محبت تھی آپ ”اپنے اکابر کے ساتھ والہانہ اور خادمانہ انداز رکھتے تھے۔

با الخصوص حضرت شیخ الاسلامؒ اور حضرت اقدس رائے پوریؒ سے انتہائی محبت و عقیدت تھی“ (تذکرہ حضرت جی مولانا محمد یوسف کانڈھلوی ص ۲۷)

### علماء کی خدمت میں حاضری کو عبادت سمجھیں

علماء کی خدمت میں حاضری کی بڑی اہمیت حضرت مولانا محمد یوسفؒ کے دل میں تھی۔ ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں —

علماء کی خدمت میں حاضری دی جائے، اس کو بھی عبادت یقین کیا جائے۔ (تذکرہ حضرت جی مولانا محمد یوسف کانڈھلوی ص ۹۵)

ایک اور مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں —

”بزرگانِ دین سے بدظن نہ ہوں۔ بلکہ ان کی خدمت میں محض استفادہ کے طور پر جاتے رہا کریں۔ ان کے پاس جب جائیں تو دھیان میں یہ نہ ہو کہ میں ان کو کچھ دینے جا رہا ہوں بلکہ ہمیشہ یہی خیال رہے کہ مجھے کچھ حاصل کرنا ہے۔“ (سوانح حضرت جیؒ حضرت مولانا محمد یوسف ص ۶۸)

مولانا مددیؒ کا اٹھ جانا، دنیا سے بڑی خیر کا اٹھ جانا ہے

اہل نسبت حضرات اکابر کا کتنا احترام اور ان کی کتنی قدر و قیمت آپ کے دل میں تھی اس کو معلوم کرنے کے لئے صرف شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین

ایک موقع پر احقر رام الحروف بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ اچانک مولانا محمد بن سلیمان ججاحبی نے آواز دی کہ ”مفتی (محمود حسن) صاحب تشریف لارہے ہیں،“ اتنا سنتے ہی حضرت جی ایسے چونکنا ہو گئے جیسے کسی بڑے کی آنے کے بعد پچھے چوکتا ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر مفتی صاحب کا استقبال کیا، بڑے اشتیاق سے گلے لگایا اور دونوں ساتھ ساتھ مسہری پر بیٹھ گئے۔ بڑا عجیب منظر تھا، دو صاحب نسبت بزرگ بیٹھے ہیں اور پورا مجعع ذکر میں مصروف ہے۔ پوری مجلس پر ایک عجیب سکینیت کا عالم طاری تھا۔

علماء و صلحاء کا یہ احترام اس لئے تھا کہ امت کی تعلیم و تربیت کا نظام سنبھالنے والے اصل بہیں ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس فرماتے ہیں —

علماء سے کہنا ہے کہ ان تبلیغی جماعتوں کی چلت پھرت اور محنت و کوششوں سے عوام میں دین کی صرف طلب اور قدر ہی پیدا کی جاسکتی ہے اور ان کو دین سیکھنے پر آمادہ ہی کیا جاسکتا ہے۔ آگے دین کی تعلیم و تربیت کا کام علماء اور صلحاء کی توجہ فرمائی ہی سے ہو سکتا ہے۔ اس لئے آپ حضرات کی توجہات کی بڑی ضرورت ہے۔

(ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس ص ۲۰۷)

اس لئے ہمارے دلوں میں علماء کا پورا احترام اور ان کی پوری قدر رانی ہونی چاہیے، جس کی ترغیب اکابر میں تبلیغ دیتے رہے۔ عوام کی علماء سے دوری ایک مستقل فتنہ ہے جو امت کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ کرے، دعوت والے اس عظیم کام کے ذریعہ امت اور علماء و صلحاء امت میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ اللہ ہم سب محنت کرنے والوں کو اس کے لئے قبول فرمائے۔ امین

احمد مدینی سے حضرت مولانا محمد یوسفؒ کے قلبی تعلق کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔

حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب بجنوری تحریر فرماتے ہیں کہ —

”حضرت مدینی نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد نظام الدین حاضری کا اتفاق ہوا۔ سردی کے دن تھے۔ حضرت جی (مولانا یوسفؒ) چبوترہ پر ڈھونپ میں بالکل بچھے ہوئے بیٹھے تھے۔ مصافحہ کے بعد ٹھنڈی سانس بھر کر فرمانے لگے۔ حضرت مدینی کا انتقال ہو گیا۔ دنیا سے بڑی خیر اٹھ گئی۔ اتنی بڑی خیر، اگر ہم سب لوگوں کی خیر ایک جگہ جمع کر لی جائے تب بھی اس خیر کے مقابلہ میں کچھ نہیں۔“ مجھے معتر آدمی کی زبانی معلوم ہوا کہ پورے دو سال تک برابر لوگوں کو تاکید کرتے رہے۔ دیکھو! اپنے اس چلہ کا ثواب حضرت مدینی کی روح کو پہنچانا۔ بلکہ ان کی ایصال ثواب کی بیانیں سے نیت کر کے چلو۔

(سوخ حضرت جی۔ حضرت مولانا محمد یوسفؒ ص ۸۲)

### مشائخ کے خدام باکمال تھے

مشائخ کرام کے خدام کے بارے میں فرماتے ہیں —

”مشائخ عظام کے جو خدام کی بابت ہم سنتے ہیں کہ وہ صاحب کمال بنے، یہ وہ خدام تھے جو خانقاہ میں آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کے پاخانے تک اٹھاتے تھے۔“

(ملفوظات و اقتباسات حضرت جی مولانا محمد یوسفؒ ص ۱۲۹)

### مفتی محمود حسن صاحبؒ اور مولانا انعام الحسن صاحبؒ

عصر بعد حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کی مسجد کی عمارت کے پیچے کی طرف مجلس لگاتی تھی۔ مولانا محمد عمر صاحب پالنپوریؒ وغیرہ بھی موجود رہتے تھے۔

ہماری کوئی عیحدہ جماعت نہیں ہے

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے ہیں —

## امت پنے کی دعوت

دین کے تمام حلقوں میں یگانگت پیدا کرنا ہمارا ہم مقصد ہے  
امت میں تبلیغ و دعوت کے عنوان سے دینی محنت کے ذریعہ امت میں  
وحدت و یگانگت پیدا کرنا کا بڑی تبلیغ کے اندوں کا داعیہ تھا۔ حضرت مولانا محمد  
الیاس صاحب فرماتے ہیں —

اپنی اس تحریک کے ذریعہ ہم ہر جگہ کے علماء اور اہلِ دین اور دنیا  
داروں میں میل و ملاپ اور صلح و آشتی بھی کرانا چاہتے ہیں، نیز خود علماء  
اور اہلِ دین کے مختلف حلقوں میں الفت و محبت اور تعاون و یگانگت کا  
پیدا کرنا اس سلسلہ میں ہمارے پیش نظر، بلکہ ہمارا ہم مقصد ہے اور یہ  
دینی دعوت ہی انشاء اللہ اس کا ذریعہ و سیلہ بنے گی۔ افراد اور جماعتوں  
میں اختلافات اغراض ہی کے اختلافات سے تو پیدا ہوتے اور ترقی  
کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے تمام گروہوں کو دین کے کام میں لگانے  
اور خدمتِ دین کو ان کا سب سے اعلیٰ مقصود بنانے کی اس طرح کوشش  
کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے جذبات اور طریقہ عمل میں موافقت  
ہو جائے۔ صرف یہی چیز نفرتوں کو محبتیوں سے بدلتی ہے — دو  
شخصوں میں صلح کرنے کا ذرا سوچو کہ کتنا بڑا اجر ہے۔ پھر امت کے  
مختلف طبقوں اور گروہوں میں مصالحت کی کوشش کا جو اجر ہوگا اس کا  
کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس ص ۸۵-۸۶)

”ہم نے اس کام کے لئے کوئی انجمن نہیں بنائی۔ نہ اس کا کوئی دفتر ہے نہ  
رجسٹرنے فہرست ہے۔ یہ سارے ہی مسلمانوں کا کام ہے۔ ہم نے مرودہ طریقہ پر  
کوئی عیحدہ جماعت بھی نہیں بنائی ہے۔“

(تذکرہ حضرت مولانا محمد یوسف کانٹھلوی ص ۱۳۔ حضرت جی کی ایک تقریر سے مأخوذه)

## عوام کو علماء سے جوڑنا ہے

دیوبند و سہارنپور جیسے علمی مرکز کیلئے جماعتوں کا بھیجا بھی اسی لئے تھا کہ  
علماء و عوام میں جوڑ قائم ہو۔ فرماتے ہیں —

میں جو دیوبند، سہارنپور، جماعتیں بھیجا ہوں، وہ اس لئے نہیں کہ  
علماء کو تبلیغ کی جائے، ان کو دعوت دی جائے۔ میں تو اس غرض سے بھیجا  
ہوں کہ آج عوام، علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہاں سے قریب ہو جائیں،  
اس میں ہاں کافائدہ ہے۔“ (ملفوظات واقعیات حضرت مولانا محمد یوسف ص ۱۱۶)

## مختلف عصیتیں زندہ ہوتی ہیں تو امت ٹوٹ جاتی ہے

فرمایا کہ — حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات اور  
عصیتیں جھیل کر امت تیار کی تھی۔ ملکی جذبہ، خاندانی عصیت جب  
زندہ ہوتی ہے تو امت ٹوٹ جاتی ہے۔“ (ایضاً ص ۱۲۰)

امت میں امت پنالانے کیلئے حضرت مولانا محمد یوسف کی ایک یادگار تقریر  
اس امت پنے، کو باقی رکھنے کی بڑی تڑپ اور کڑھن ان کے دل میں تھی۔  
اپنے وصال سے تین دن پہلے (یعنی ۲۶ ربیعی قعده ۱۳۸۲ھ۔ مطابق ۳۰ مارچ  
۱۹۶۵ء) بعد نمازِ فجر رائیوٹ (ضع لا ہور) میں زندگی کی جو آخری تقریر فرمائی تھی  
اس سے امت میں امت پنالانے کیلئے ان کے دل کے کرب و اضطراب اور درد و  
سو ز مندی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے پوری قوت سے

مسلمانوں کو امت بننے کی دعوت دی تھی۔ بغیر کسی تبصرے کے اس تقریر کے چند اقتباسات یہاں پیش کئے جا رہے ہیں۔

”یہ امت بڑی مشقت سے بنی ہے۔ اس کو امت بنانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں۔“

(تذکرہ حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھلوی ص ۱۵۰)

..... امت کی ایک قوم اور علاقہ کے رہنے والوں کا نام نہیں ہے۔ بلکہ سیکڑوں ہزاروں قوموں اور علاقوں سے جڑ کر امت بنتی ہے۔ جو کوئی کسی ایک قوم یا ایک علاقہ کو اپنا سمجھتا ہے اور دوسروں کو غیر سمجھتا ہے وہ امت کو ذمہ کرتا ہے اور اس کے نکٹے نکٹے کرتا ہے۔ اور حضورؐ کی اور صحابہؓ محتتوں پر پانی پھیرتا ہے.....“

(تذکرہ حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھلوی ص ۱۵۱)

”یاد رکھو میری قوم اور میرا علاقہ اور میری برادری یہ سب امت کو توڑنے والی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں ناپسند ہیں،“

(تذکرہ حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھلوی ص ۱۵۲)

”امت پنے کو توڑنے والی چیزیں معاملات اور معاشرت کی خرایاں ہیں۔ ایک فرد یا طبقہ جب دوسرے کے ساتھ نانصافی اور ظلم کرتا ہے اور اس کا پورا حق اس کو نہیں دیتا یا اس کو تکلیف پہنچاتا ہے یا اس کی تحریر اور بے عزتی کرتا ہے تو تغیریق پیدا ہوتی ہے اور امت پنالوٹا ہے۔“

(تذکرہ حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھلوی ص ۱۵۳)

”امت بننے کے لئے یہ ضروری ہے کہ سب کی یہ کوشش ہو کہ آپس میں جوڑ ہو، پھوٹ نہ پڑے۔ حضورؐ کی ایک حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت میں ایک آدمی لا یا جائے گا جس نے دنیا میں نماز، روزہ، حج،

تبلیغ سب کچھ کیا ہو گا مگر وہ عذاب میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس کی کسی بات نے امت میں تفریق ڈالی ہو گی، اس سے کہا جائے گا پہلے اپنے اس ایک لفظ کی سزا بھگت لے جس کی وجہ سے امت کو نقصان پہنچا۔ اور ایک دوسرا آدمی ہو گا جس کے پاس نماز، روزہ، حج وغیرہ کی ہو گئی اور خدا کے عذاب سے بہت ڈرتا ہو گا، مگر اس کو بہت ثواب سے نوازا جائے گا، وہ خود پوچھنے گا کہم میرے کس عمل کی وجہ سے ہے، اس کو بتایا جائیگا تو نے فلاں موقع پر ایک بات کہی تھی جس سے امت میں پیدا ہونے والا فساد رُگ گیا اور بجائے توڑ کے جوڑ پیدا ہو گیا۔ یہ سب تیرے اسی لفظ کا صلہ اور ثواب ہے۔

امت کے بنانے اور بگاڑنے میں، جوڑ نے اور توڑ نے میں سب سے زیادہ دخل زبان کا ہوتا ہے۔ یہ زبان دلوں کو جوڑتی بھی ہے اور چاڑتی بھی ہے۔ زبان سے ایک بات غلط اور فساد کی نکل جاتی ہے اور اس پر لالھی چل جاتی ہے اور پورا فساد کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ہی بات جوڑ پیدا کر دیتی ہے اور پھٹے ہوئے دلوں کو ملادیتی ہے۔ اس لئے سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ زبانوں پر قابو ہو اور یہ جب ہو سکتا ہے جب بندہ ہر وقت اس کا خیال رکھے کہ خدا ہر وقت اور ہر جگہ اس کے ساتھ ہے اور اس کی ہربات کو سن رہا ہے۔“

(تذکرہ حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھلوی ص ۱۵۲)

”شیطان تمہارے ساتھ ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو جس کا موضوع ہی بھلائی کی اور نیکی کی طرف بلا نا اور ہر برائی اور فساد سے روکنا ہے۔ وَ لَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۖ وَ أُولَئِكَ هُمُ

## المُفْلِحُونَ ۵

امت میں ایک گروہ وہ ہو جس کا کام اور موضوع ہی یہ ہو کہ دین کی طرف اور ہر قسم کے خیر کی طرف بلائے۔ ایمان کے لئے اور خیر اور نیکی کے راستہ پر چلنے کے لئے محنت کرتا ہے۔ نمازوں پر محنت کرے، ذکر پر محنت کرے، حضور کے لائے ہوئے علم پر محنت کرے۔ برائیوں اور معصیتوں سے بچانے کے لئے محنت کرے۔ اور ان مختوق کی وجہ سے امت ایک امت بنی رہے۔” (تذکرہ حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھلوی ص ۱۵۶)

آج ساری دنیا میں امت پنا توتھے کی محنت چل رہی ہے، اس کا علاج اور توتھی ہی ہے کہ تم اپنے کو حضور والی محنت میں لگاؤ۔ مسلمانوں کو مسجدوں میں لاوے، وہاں ایمان کی باقیتی ہوں، تعلیم و ذکر کے حلقتے ہوں۔ دین کی محنت کے مشورے ہوں۔ مختلف طبقوں کے اور مختلف براوریوں کے اور مختلف زبانوں والے لوگ مسجد بنوی کے طریقہ پر ان کاموں میں بڑیں، جب امت پنا آئے گا۔“

(تذکرہ حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھلوی ص ۱۵۷)

”دوستو! اپنے کو اس محنت پر جھونک دو کہ حضورؐ کی امت میں امت پنا آجائے۔ اس میں یقین و ایمان آجائے، یہ ذکر و تسبیح اور تعلیم والی، خدا کے سامنے جھکنے والی، خدمت کرنے والی، برداشت کرنے والی، دوسروں کا اعزاز و اکرام کرنے والی امت بن جائے۔“

(تذکرہ حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھلوی ص ۱۵۹)

## دینی محنت کا عالمی مرکز، مسجد بنوی

دینی محنت کا جو نظام حضرت مولانا محمد الیاسؒ نے بنایا تھا، وہ ان کی ڈھنی اُجھ نہیں تھی۔ انہوں نے سیرت بنوی پر غور کر کے مسجد بنوی سے جو نظام چلا�ا گیا تھا اسی کو پیش نظر رکھ کر نظام دعوت و تبلیغ ترتیب دیا تھا۔

عمومی تعلیم و تربیت، طریقہ بنوی کے مطابق ہو

فرماتے ہیں —

دین کی عمومی تعلیم و تربیت کا جو طریقہ ہم اپنی اس تحریک کے ذریعہ رانج کرنا چاہتے ہیں صرف وہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رانج تھا اور اسی طرز سے وہاں عام طور پر دین سیکھا اور سکھایا جاتا تھا۔ بعد میں جو اور طریقہ اس سلسلہ میں ایجاد ہوئے مثلاً تصنیف و تالیف اور کتابی تعلیم وغیرہ، سوانح کو ضرورت حادثہ نے پیدا کیا، مگر اب لوگوں نے صرف اسی کو اصل سمجھ لیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے طریقہ کو بالکل بھلا دیا گیا ہے، حالانکہ اصل طریقہ وہی ہے اور عمومی پیانہ پر تعلیم و تربیت صرف اسی طریقہ سے دی جاسکتی ہے۔

(لغوٹات حضرت مولانا محمد الیاسؒ ص ۲۷)

## تمام مسجدوں میں مسجد بنوی والے اعمال ہوں

اور چاہتے تھے کہ دنیا بھر کی تمام مسجدوں میں والی اعمال زندہ ہو جائیں جو

مسجد بنوی میں ہوا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں —

مسجدیں، مسجد بنوی کی بیٹیاں ہیں، اس لئے ان میں وہ سب کام ہونے چاہئیں جو حضورؐ کی مسجد میں ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

مسجد میں نماز کے علاوہ تعلیم و تربیت کا کام بھی ہوتا تھا اور دین کی دعوت کے سلسلہ کے سب کام بھی مسجد ہی سے ہوتے تھے۔ دین کی تبلیغ یا تعلیم کے لئے وفوڈ کی روائی بھی مسجد ہی سے ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ عساکر کا نظم بھی مسجد ہی سے ہوتا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں بھی اسی طریقہ پر یہ سب کام ہونے لگیں۔ (مغفوظات حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلویؒ ص ۱۶۸-۱۷۲)

ہماری محنت، نبیؐ والے خاص نقشے کے مطابق ہو

دینی محنت کرنے والے رفقاء سے حضرت مولانا محمد یوسفؐ نے ایک بار خطاب فرمایا کہ —

”ایک دینی محنت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ نے ایک خاص نقشے کے ساتھ کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس محنت کو ان کے طریقے پر سکھیں اور کریں۔“ (تذکرہ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلویؒ ص ۱۳۸)

مسجد و والے مخصوص اعمال سے مسلمانوں کی زندگی میں امتیاز تھا  
مسجد نبویؐ کے اعمال سے مسلمانوں کی زندگی میں امتیاز تھا اس کے بارے میں مولانا محمد یوسفؐ اپنے ایک مکتب میں تحریر فرماتے ہیں —

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو مسجد و والہ بنا یا تھا۔ مسجد کے کچھ مخصوص اعمال دیتے تھے۔ ان اعمال سے مسلمانوں کی زندگی میں امتیاز تھا۔ مسجد میں اللہ کی بڑائی کی، ایمان کی اور آخرت کی باتیں ہوتی تھیں۔ اعمال سے زندگی بننے کی باتیں ہوتی تھیں۔ عملوں کو تکمیل کرنے کے لئے تعلیمیں ہوتی تھیں۔ ایمان و عمل صالح کی دعوت کے لئے ملکوں اور علاقوں میں جانے کی تکمیلیں بھی مسجد سے ہی ہوتی تھیں۔ اللہ کے ذکر کی مجلسیں مسجدوں میں ہوتی تھیں۔ یہاں تعاون

ایثار ہمدردیوں کے اعمال ہوتے تھے۔ ہر شخص حاکم حکوم، مالدار غریب، تاجر، زارع، مزدور، مسجد میں آ کر زندگی سیکھتا تھا اور باہر جا کر اپنے اپنے شعبہ میں مسجد و والے تاثر سے چلتا تھا۔

(تذکرہ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلویؒ ص ۹۷-۹۸)

### مسجد نبویؐ، ذکر و تعلیم اور دعوت کا مرکز تھی

یہ نہایت ہی موزوں محل ہے کہ یہاں پر مسجد نبویؐ سے کی جانے والی عالمی دینی محنت کے نقشہ کو بھی تحریر کیا جائے تاکہ ہماری محنت کا رخ صحیح ہو اور اس میں کسی قسم کی بھی آنے نہ پائے۔

قرآن مجید میں ”سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ کی آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک ہی مضمون ایک ہی طرح کے الفاظ میں آیا ہے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد یا آپؐ کے عہدہ نبوت و رسالت کے فرائض منصی تین بیان کئے گئے ہیں۔ ایک تلاوتِ آیات، دوسرے تعلیم کتاب و حکمت، تیسرا لوگوں کا ترزیکیہ اخلاق۔“

(معارف القرآن جلد اول، ص ۳۳۲-۳۳۳ مخفی محمد شفیع)

ہجرت مدینہ کے بعد جب دین کی محنت کھل کر کرنے کا موقع ملا اور رکاوٹیں حائل نہ رہیں تو انہیں فرائض منصی کی تیکمیل کے لئے آپؐ نے اپنی محنت کے لئے مسجد نبویؐ کو ”مرکز“ بنایا۔ یہ مسجد دعوت کا بھی مرکز تھی، تعلیم کا بھی اور ترزیکیہ کا بھی۔ تینوں ہی امور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کرنے کی فکر و محنت میں اپنے کو مشغول رکھا۔ اور کسی مصلحت سے ان تینوں میں سے کسی ایک یاد و کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ بیک وقت تینوں ہی امور کو محنت کا میدان بنایا۔ یہ نہیں سوچا گیا کہ پہلے دعوت دینے ہی کا کام کیا جائے۔ تعلیم اور ترزیکیہ کو موخر کیا جائے۔ یا تعلیم اور ترزیکیہ ہی کو ترجیح دی جائے

اور دعوت سے صرف نظر کیا جائے۔ اس طرح سوچنے کی کوئی گنجائش قرآن حکیم نے نہیں رکھی تھی۔ تینوں ہی کو فرائض منصبی قرار دیا تھا۔ تو اب سیرت پر نظر ڈال کر یہ دیکھنے کی اور اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں امور کے بارے میں کیا فکر کی اور کیا محنت کی۔ اس کے لئے مسجد نبوی کے اعمال و مشاغل کو سمجھنا پڑیا۔ ذیل میں انہیں امور کی بارے میں عرض کیا جا رہا ہے۔

### دعویٰ سرگرمیاں

مدینہ میں دو طرح کی ذمہ داریاں تھیں جن کو پورا کرنا ضروری تھا۔ ایک تو لوگوں کو مدینہ اسلام اور خدا کی طرف بلاانا اور ایمان لانے کی دعوت دینا۔ دوسرا جو لوگ ایمان لے آئیں ان کی تعلیم و تربیت کاظم بنانا۔

اطراف کے جن قبائل نے ایمان قبول کیا تھا ان کو دینی امور کی تعلیم دینے کے لئے حضور ﷺ نے اپنے اصحاب کو اور وفاد کو اطراف میں بھیجا شروع فرمایا۔ اور جو قبائل دین سیکھنے کے لئے مدینہ آتے تھے ان کے لئے مسجد میں شہرنے کی ایک خاص جگہ مقرر تھی۔ یہ ہی جگہ ہے جہاں مسجد نبوی میں ”ستون و فود“ بنتا ہے۔ اور جن قبائل نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا انہیں دعوت ایمان اور دعوت الی اللہ دینے کے لئے وفاد (جماعتیں) بھیجے جاتے تھے۔ جیسے کہ حضرت خالد بن ولید ایک جماعت کے ساتھ یمن میں کئی مہینوں تک محنت کرتے رہے۔

”داعیان اسلام جو اطراف عرب میں بھیجے جاتے تھے ان کو ہدایت کی جاتی تھی کہ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وطن چھوڑ کر مدینہ میں آجائیں اور یہیں بودو باش اختیار کریں۔ اس کا نام ہجرت تھا۔ اس بناء پر بیعت کی دو قسمیں کر دی گئی تھیں۔ بیعت اعرابی اور بیعت ہجرت۔ بیعت اعرابی صرف ان بدوؤں کے لئے تھی جن کو کچھ دنوں مدینہ منورہ میں رکھ کر تعلیم دینا مقصود تھا۔ مختصر مشکل الاثار میں روایت

ہے کہ عقبہ جہنی جب اسلام لائے تو آنحضرت ﷺ نے ان سے دریافت کیا کہ بیعت اعرابی کرتے ہو یا بیعت ہجرت۔ اس کے بعد مصنف لکھتا ہے۔

ان البيعة من المهاجر توجب الاقامة عنده (۲۶) ليصرف فيما يصرفه فيه من امور الاسلام وبخلاف البيعة الاعرابية (ہجرت کی بیعت کرنے سے لازم ہو جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس قیام کرے تاکہ آنحضرت ﷺ ان کو اسلامی امور میں لگائیں۔ اور بیعت اعرابی میں یہ ضروری نہیں۔)

اسی بناء پر عرب کے بہت سے خاندان اپنے گھروں سے ہجرت کر کے مدینہ میں چلے آئے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ آئے تو اسی (۸۰) شخصوں کو لے کر آئے اور مدینہ میں آباد ہوئے۔ خلاصۃ الوفاء سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں جہنیہ وغیرہ قبائل کی الگ الگ مسجدیں تھیں۔ یہ وہی قبائل تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آگئے تھے اور چونکہ مسجد نبوی سب کیلئے کافی نہ تھی اس لئے الگ الگ مسجدیں بن گئی تھیں،

(سیرت النبی جلد دوم ص ۵۶)

اور چونکہ ہر ایک کا آنا ممکن نہیں تھا۔

”اس لئے ضروری قرار دیا گیا کہ ہر جماعت اور ہر قبیلہ میں کچھ ایسے لوگ موجود رہیں جو تعلیم و ارشاد کا فرض انجام دے سکیں۔ اسی بناء پر قرآن مجید میں حکم آیا۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيُنَفِّرُوا كَافَةً طَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنَذِّرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَأَجُуُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝ (سورہ توبہ، آیت ۱۲۲، پ ۱۱۴)

اور سب کے سب مسلمان تو سفر کر کے (مدینہ) نہیں آکتے اس لئے ہر قبیلہ سے ایک

گروہ کو آنا چاہئے تاکہ وہ شریعت (دین) میں تفقہ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنے جا کر اپنی قوم کوڈ رائیں شاید یہ لوگ بری باتوں سے بچیں۔ ”سیرۃ ابنی جلد دوم ص ۵۵“

(اس لئے) ”عرب کے ہر قبیلہ کا ایک گروہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور آپ سے مدد ہی امور دریافت کرتا تھا اور دین میں تفقہ حاصل کرتا تھا،“ (سیرۃ ابنی دوم ص ۵۶)

**دعوتی سرگرمیوں کا ایک جائزہ**

مسجد نبوی کی ان دعوتی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے حضرت مولانا محمد یوسف فرماتے ہیں —

حضور نے مدینہ والوں کو کمائی کی چھٹی دینے کے بجائے محنت میں لگا کر دین کی محنت کا ایک نقشہ قائم کیا اور —

”مدینہ پاک کے دس سال کے قیام میں ڈیڑھ سو جماعتیں نکالیں جن میں سے ۲۵ سفروں میں آپ خود تشریف لے گئے۔ کسی میں دس ہزار آدمی نکلے، کسی میں پیچاس ہزار نکلے، کسی میں ۳۰ یا ۳۰ ہزار نکلے، کسی میں ۳۱۳ نکلے، کسی میں دس کسی میں پندرہ، کسی میں سات یا آٹھ نکلے۔

مدت کے اعتبار سے کسی میں دو ماہ خرچ ہوئے کسی میں تین ماہ، کسی میں بیس دن کسی میں پندرہ دن خرچ ہوئے۔ بقیہ جو سوا سو جماعتیں نکالیں ان میں بھی ہزار نکلے۔ پانچ سو اور چھ سو بھی کم و بیش سب طرح نکلتے رہے۔ مدت بھی چھ ماہ چار ماہ سب طرح کا وقت لگا۔ اب حساب لگاؤ کہ ہر آدمی کے حصے میں باہر گزارنے کا کتنا وقت پڑا اور سال میں کتنے سفر کئے۔ اگر سب سفروں کو جوڑ کر تخمینہ کرو گے تو سال میں چھ ماہ یا سات ماہ ہر آدمی کے حصے میں آئیں گے۔ اب اس نقل و حرکت کی کوشش سے مختلف مقامات کے انسانوں کو مدینہ آنے کی دعوتیں ملیں کہ

### نظامِ تعلیم

”تعلیم و ارشاد کے مختلف طریقے تھے۔ ایک یہ کہ دس بیس دن یا مہینہ دو مہینہ رہ کر عقائد اور فقہ کے ضروری مسائل سیکھ لیتے

اسلام مدینہ میں آ کر سیکھو۔ چونکہ اسلامی زندگی کا ماحول سے آئے گی۔ اس زندگی کا ماحول صرف مدینہ میں تھا۔ تو باہر نکلنے والوں کو مدینہ منورہ کے قیام کے زمانہ میں باہر سے آنے والوں کو دین سکھانا پڑتا تھا۔ پھر مدینہ والوں کو اپنے لئے بھی علم حاصل کرنے کے لئے وقت کا ناپڑتا تھا۔ مدینہ میں قیام کے زمانہ میں مسجدوں کے لئے وقت مانگا جاتا تھا تاکہ سیکھنے سکھانے کا نظام مسجدوں میں قائم رہے۔ اور آنے والوں کو سنبھالا جاسکے۔ جب ان لوگوں نے روزانہ کی زندگی ایسی بنالی کہ اگر دو آدمیوں نے مل کر تجارت شروع کی تو باری لگائی ایک ایک دن کی کوئی کسی وقت کوئی کسی وقت کوئی کما کر پہنچ جاتا کوئی شام کو پہنچتا اور رات کو رہتا، عشاء بعد سے عبادت میں لگا رہتا۔ پھر سوتا۔ کچھ عشاء پڑھتے ہی سو جانتے اور پچھلے وقت میں تجداد اکرتے۔ اس طرح چوبیں گھنے مسجد میں مقامی مسلمان موجود رہتے۔ اب جو باہر سے جس وقت پہنچتے آدمی مسجد میں ان کو سنبھالنے کو موجود ملتے۔ کبھی تعلیم کے حلے ہو رہے ہیں تو آنے والوں کو اس میں بھاتے۔ نماز ہو رہی ہے تو اس میں شامل کر رہے ہیں۔ ذکر واذکار جس وقت ہو رہا ہے اس میں جوڑ رہے ہیں۔ اس طرح آنے والے بھی اپنے کو خالی کسی وقت نہیں سمجھیں گے۔ اب حساب لگاؤ چھ سات ماہ تو باہر خرچ ہوئے مسجدوں کی باری میں بھی دوڑھائی ماہ نکل گئے۔“

(تذکرہ حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھلوی ص ۱۳۲-۱۳۳)

تھے اور اپنے قبائل میں واپس جاتے تھے اوان کو تعلیم دیتے تھے۔ مثلاً مالک بن الحويرث جب سفارت لے کر آئے تو میں دن قیام کیا اور ضروری مسائل کی تعلیم حاصل کی۔ جب چلنے لگے تو آپ نے فرمایا ”ارجعوا الی اهليکم فعلم و هم و امر و هم و صلوا کمار ايتمونی اصلی (اپنے خاندان میں واپس جاؤ۔ ان میں رہ کر ان کو امام شریعت کی تعلیم دو اور جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، اسی طرح نماز پڑھو۔)“ (سریت النبی جلد دوم ص ۵۶)

”دوسرा مستقل طریقہ درس کا تھا۔ یعنی لوگ مستقل طریقے سے مدینہ میں رہتے تھے اور عقائد شریعت اور اخلاق کی تعلیم پاتے تھے۔ ان کے لئے صدقہ خاص درسگاہ تھی۔ اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ قیام کرتے تھے جو تمام دنیاوی تعلقات سے آزاد ہو کر شب و روز زہد و عبادت اور زیادہ تر خدمت علم میں صرف رہتے تھے۔

مشکوٰۃ کتاب العلم میں روایت ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت مسجد میں دو حلقات تھے۔ حلقة ذکر اور حلقة درس۔ آنحضرت ﷺ اس حلقة درس میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس وقت کی اصطلاح میں ان طالبان علم کو ”قراء“ کہتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہر جگہ یہی نام آتا ہے۔۔۔۔۔ ارباب سیر نے لکھا ہے کہ ان لوگوں میں سے جب کوئی شادی کر لیتا تھا تو اس جماعت سے نکل جاتا تھا اور ان کے بجائے دوسرا لوگ داخل ہوتے تھے۔

صحابہ صفحہ اگرچہ اس قدر مفلس و نادار تھے کہ کسی کے پاس ایک کپڑے سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، جس کو گروں سے باندھ کر گھٹنوں تک

چھوڑ دیتے تھے کہ چادر اور تہددونوں کا کام دیتا تھا۔ تاہم یہ لوگ پاؤں توڑ کرنیں بیٹھتے تھے بلکہ جنگل میں جا کر لکڑیاں چین لاتے تھے۔ اور ان کو تیچ کر آدھا خیرات کر دیتے تھے اور آدھا خوان طریقت میں تقسیم ہوتا تھا۔ اس بناء پر تعلیم اور درس کا وقت رات کو مقرر کیا گیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس درسگاہ کے معلمین میں حضرت عبادہ بن الصامت بھی تھے جو مشہور صاحب علم تھے۔ اور جن کو حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں تعلیم فقد و قرآن کے لئے فلسطین بھیجا تھا۔۔۔۔۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ درسگاہ صفحہ کے علاوہ اور بھی کوئی جگہ تھی جہاں اصحاب صفحہ رات کو تعلیم پاتے تھے۔ مندابن حنبل (جلد سوم ص ۱۳۷۷) میں ہے۔

عن انس کانوا سبعين فکانوا اذا جهنم الليل انطلقو الى  
معلم لهم بالمدينه فيدرسون الليل حتى يصبحوا  
(حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ اصحاب صفحہ میں سے ستر شخص رات کو ایک معلم کے پاس جاتے تھے اور نیچے تک درس میں مشغول رہتے تھے۔)

### تحریر و کتابت

عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا۔ لیکن اسلام آیا تو تحریر و کتابت کافن بھی گویا ساتھ لے کر آیا۔ سب سے بڑی ضرورت قرآن مجید میں ضبط و مدونی کی تھی۔ اس بناء پر آنحضرت ﷺ نے شروع ہی سے کتابت کی ترویج کی طرف توجہ فرمائی۔ جگ بدرا کے ذکر میں گذر چکا ہے کہ ایسا ان جنگ میں سے جو لوگ فدیہ میں ادا کر سکے ان کو اس شرط پر رہا کیا گیا کہ مدینہ میں رہ کر لوگوں کو لکھنا سکھا دیں۔ ابو داؤد کی مذکورہ بالا حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب صفحہ کو جو تعلیم دی جاتی تھی اس

میں لکھنا بھی داخل تھا۔ چنانچہ حضرت عبادہؓ قرآن مجید کے ساتھ لکھنے کی بھی تعلیم دیتے تھے۔” (سیرت ابنی جلد دوم ص ۵۸-۵۷)

دین کی محنت کی مختلف فتمیں ہیں۔ جماعتوں کی چلت پھرت ہے، مدرسوں کی تعلیم ہے وعظ و ارشاد ہے اور تصنیف و تالیف ہے۔ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوگی اس کے ذریعہ دعوت دی جائے گی اور محنت کی جائے گی۔ اس موقع پر حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے ایک ارشاد کو یہاں نقل کرنا مناسب نہ ہوگا۔

ایک نیازمند سے (جن کو مولانا کے تبلیغی کام سے بھی تعلق تھا اور اس کے علاوہ تحریر و تصنیف ان کا خاص مشغله تھا) ایک دن فرمایا۔

”میں اب تک اس کو پسند نہیں کرتا تھا کہ اس تبلیغی کام کے سلسلہ میں کچھ زیادہ لکھا پڑھا جائے اور تحریر کے ذریعہ اس کی دعوت دی جائے، بلکہ میں اس کو منع کرتا رہا۔— لیکن اب میں کہتا ہوں کہ لکھا جائے اور تم بھی خوب لکھو۔“ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ ص ۱۲۹)

”آنحضرت ﷺ کی تعلیم و تلقین کا فیض اگر چہ سفر، حضر، جلوت، غلوت، نشست، برخاست، غرض ہر وقت جاری رہتا تھا تاہم اس سے وہی لوگ مستفیض ہو سکتے تھے جو اتفاق سے موقع پر ہوتے تھے۔ اس بناء پر آپؐ نے تعلیم و ارشاد کے لئے بعض اوقات خاص کر دیئے تھے کہ لوگ پہلے سے مطلع رہیں اور جن کو استفادہ منظور ہو، وہ آسکیں۔“

یہ صحبتیں عموماً مسجد نبویؐ میں منعقد ہوتی تھیں۔ مسجد نبویؐ میں ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ کبھی آپؐ وہاں نشست فرماتے۔ ابتداءً آنحضرت ﷺ کی نشست کے لئے کوئی ممتاز جگہ نہ تھی۔ باہر سے اجنبی لوگ آتے تو آپؐ کو پہچاننے میں دقت ہوتی۔ صحابہؐ نے ایک چھوٹا سا مٹی کا چبورہ بنادیا۔ آپؐ اس پر تشریف رکھتے۔ باقی دونوں طرف صحابہ حلقة باندھ کر

بیٹھ جاتے۔ (ابوداؤ دباب القدر)، (سیرت ابنی دوم ص ۱۳۸)

”اس قسم کی مجالس کے لئے جو خاص وقت مقرر تھا وہ صبح کا تھا۔ نماز فجر کے بعد آپؐ بیٹھ جاتے اور فوضی روحانی کا سرچشمہ جاری ہو جاتا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپؐ گھر جاتے اور مجالس قائم ہو جاتی۔“ (سیرت ابنی جلد دوم ص ۱۳۹)

مسجد نبویؐ میں ذکرا در تعلیم کے حلقے لگتے تھے۔ ان حلقوں میں تشریف فرما ہو کر حضورؐ کا اور نماز سکھاتے۔

”ایک روز آپؐ مسجد میں تشریف لائے۔ صحابہؐ کے دو حلقے قائم تھے۔ ایک قرآن خوانی اور ذکر و دعا میں مشغول تھا اور دوسرے حلقہ میں علمی باتیں ہو رہی تھیں۔ آپؐ نے فرمایا دونوں عمل خیر کر رہے ہیں۔ لیکن خدا نے مجھ کو صرف معلم بنانا کر معموٹ کیا ہے۔ یہ کہہ کر علمی حلقہ میں بیٹھ گئے۔“ (سیرت ابنی دوم ص ۱۳۰)

”حکم بن عمیرؓ نے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ ہم کو تعلیم دیتے تھے کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کانوں سے اوپر تجاوز نہ کرو۔ اور کہو

**سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ**

**وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ** (جیات الصحابة دوم ص ۱۹۷)

”حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ ہم کو شہد کی تعلیم دیتے تھے جس طرح پر کہ ہم کو قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا مجھ کو حضورؐ نے شہد سکھایا، میری ہتھیلی آپؐ کے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی جس طرح پر کہ مجھے قرآن کی سورتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ اس کے بعد شہد کا تذکرہ کیا۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ آپؐ ہم کو فوایح الکلم یا جوامع الکلم اور فوایح الکلم کی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ آپؐ نے ہم کو نماز کا خطبہ اور خطبہ حاجت کی تعلیم دی پھر شہد کا مذکورہ کیا۔ ”حیات الصحابة“ ص ۱۹۸

”حضرت سعد بن جنادہؓ نے فرمایا۔ میں اہل طائف میں سے وہ پہلاً آدمی ہوں جو آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ میں طائف کے بالائی حصہ سے علی الصباح چلا، میں منی میں عصر کے قریب پہنچا۔ پہاڑ میں چڑھا پھر اڑا اور آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام لایا۔ حضورؐ نے مجھے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور إِذَا ذُلِّلَتْ کی تعلیم دی۔ اور یہ کلمات مجھے سکھائے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اور فرمایا یہ وہ بھلے کلمات ہیں جو باقی رہ جائیں گے۔“

(حیات الصحابة“ ص ۲۰۰-۱۹۹)

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی نبی ﷺ کی اتباع میں انہیں اعمال ذکر میں اور تعلیم و تعلم میں مشغول رہتے۔

”حضرت ابن عمرؓ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر ہم کو ممبر پر (بیٹھ کر) اسی طرح الحیات سکھاتے تھے جس طرح کہ استاد مکتب میں لڑکوں کو سکھاتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے اور انہوں نے کہا کہ حضرت عمرؓ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو الحیات سکھائی اور یقین سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا اور ان کو الحیات سکھائی تھی۔ ”الْتَّحَيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلُوةُ الطَّيِّبُتُ الْمُبَارَكَةُ لِلَّهِ“

— عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمرؓ سے سنا اور حضرت عمرؓ پر تشریف فرماتے وہ لوگوں کو تشهد سکھارے ہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہو الْتَّحَيَّاتُ لِلَّهِ پس پہلی جیسی حدیث بیان کی۔“

(حیات الصحابة“ ص ۹۸-۹۷)

ان حلقوں میں چھوٹی سی چھوٹی بات کی بھی اصلاح کی جاتی تھی۔

”اسودؓ نے کہا کہ حضرت عبد اللہ ہم کو الحیات کی اسی طرح پر تعلیم دیتے تھے جس طرح کہ ہم کو قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ ہم لوگوں کی گرفت الف اور وَوَ (تک) پر کرتے تھے۔“ (حیات الصحابة“ ص ۱۹۸)

سکھائے جانے والے اعمال اور باتوں کی ان حلقوں میں تکرار ہوتی تھی تاکہ بات صحیح طرح سے دل میں جنم جائے۔

”حضرت انسؓ نے بیان کیا کہ ہم نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ (راوی کہتے ہیں) بہت قریب ہے یہ کہ حضرت انسؓ نے کہا کہ ساٹھ آدمی تھے۔ آپؐ ہم سے حدیث بیان کرتے پھر اپنی حاجت کیلئے اندر تشریف لے جاتے تو ہم آپس میں اس حدیث کی کیے بعد گیرے تکرار کرتے۔ جب ہم کھڑے ہوتے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ حدیث ہمارے دلوں میں گاڑ دی گئی ہے۔“ (حیات الصحابة“ ص ۲۳۸)

### ترکیہ و احسان

مندرجہ بالآخر یہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایمان قبول کرنے والے قابل کی تعلیم کے لئے صرف معلمین ہی روانہ نہیں کئے جاتے تھے بلکہ اہتمام کے ساتھ بیعت اعرابی و بیعت بھرت کے عنوان پر مدینہ بلا یا جاتا تھا۔ مقصود یہ تھا کہ انہیں سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کافیض صحبت حاصل ہو جائے۔ اور اہل نظر سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ صحبت کے ذریعہ جو تربیت اور نفعوں کا تزکیہ ہوتا ہے وہ زیادہ موثر اور نتیجہ خیز اور درپریا ہوتا ہے۔

ای لئے جیسے کے پہلے ذکر آیا ہے ہر ایک کو مدینہ آنے کی دعوت دی جاتی تھی مولا ناجم یوسفؓ فرماتے ہیں کہ —

(آنحضرت ﷺ ایک دن عام طور پر لوگوں کے لئے باہر نکلتے تھے)“

(سیرۃ النبی جلد دوم ص ۱۳۹-۱۴۰)

ان مخصوص مجالس میں آپ اپیسا بلیغ و عظیز فرماتے کہ قلوب متاثر ہو جاتے۔  
”ابوداؤد میں عرب پاٹ بن ساریہ سے روایت ہے۔

وعطنا رسول اللہ ﷺ یوماً بعد صلوٰۃ الغدّۃ موعظة بلیغة  
ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب

(رسول اللہ ﷺ نے ایک دن صبح کی نماز کے بعد ایک بلیغ و عظیز کہا  
جس سے آنکھیں اشک ریز ہو گئیں اور دل کا شک اٹھے۔)“

(سیرۃ النبی جلد دوم ص ۱۴۰)

### ذکر کا اہتمام

”نظام تعلیم“ کے ضمن میں امور دینیہ کی تعلیم کا ذکر آیا ہے۔ انہیں تعلیمی  
حلقوں میں ذکر اور ذکر کے کلمات بھی سکھائے جاتے تھے۔

”حضرت سعد بن جنادہ نے فرمایا۔۔۔ میں اہل طائف میں سے  
وہ پہلاً آدمی ہوں جو آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔۔۔ چنانچہ میں طائف  
کے بالائی حصہ سے علی الصباح چلا، میں منی میں عصر کے قریب پہنچا۔۔۔ پہاڑ  
میں چڑھا پھر اتر اور آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام لایا۔۔۔ حضورؐ  
نے مجھے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فَإِنَّ اللَّهَ  
كَلَمَاتَ مَجْهَهُ سَكَّهَتْ۔۔۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَاللَّهُ أَكْبَرُ اور فرمایا یہ وہ بھلے کلمات ہیں جو باقی رہ جائیں گے۔۔۔“

(حیات الصحابة جلد سوم ص ۲۰۹-۲۱۰)

”حضرت علیؓ بن ابی طالب نے کہا کہ مجھ سے حضورؐ نے فرمایا میں  
تجھے پانچ ہزار بکریاں دوں یا تجھے ایسے پانچ کلمات سکھادوں جس میں

”..... جتنا کام ہوا تمام کا تمام مدینہ کی بستی سے ہوا۔۔۔ جہاں  
بھی کوئی ایمان لاتا اسے مدینہ بلا لیا جاتا، تو مدینہ ایسی بستی بن گیا جہاں  
لوگ، خاندان اور برادریاں چھوڑ کر آ کر لیتے رہے۔۔۔ مدینہ والوں  
کو ان کے رہنے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑتا۔۔۔ اب یہ ایسی بستی بن گئی  
جہاں مہا جرا اور مقامی برابر ہو گئے۔۔۔“

(تذکرہ حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھلوی ص ۱۳۱)

”چونکہ مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی جماعت تیار کی جائے جو نہ صرف  
شریعت کے اوامر و نواہی سے واقف ہو بلکہ شب و روز آنحضرت صلی  
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے سے تمام تر اسلامی رنگ میں ڈوب  
جائے۔ جس کی گفتار، کردار، بات چیت، نشت و برخاست، قول  
و عمل، ایک ایک چیز تعلیم نبویؐ کے پرتو سے منور ہو جائے تا کہ وہ تمام  
ملک کے لئے اسوہ حسنہ اور نمونہ عمل بن سکے۔ اس لئے ہر قبیلے سے  
ایک جماعت آتی تھی اور آپؐ کی خدمت میں رہ کر تعلیمات سے بہرہ  
اندوں ہوتی تھی۔“ (سیرۃ النبی جلد دوم ص ۵۶)

عمومی تعلیم کا وہ نقشہ جو اپر کی سطور میں ”نظام تعلیم“ کے زیر عنوان آگیا  
ہے، اس کے علاوہ تصفیہ قلوب اور ترکیہ نفوس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص  
اهتمام فرماتے تھے۔ جس کے بارے میں صاحب سیرۃ النبی تحریر فرماتے ہیں۔۔۔

”نماز کے بعد جو مجلس منعقد ہوتی اس میں وعظ و نصیحت اور اس قسم کی  
جزئی باتوں پر گفتگو ہوتی تھی۔ لیکن ان اوقات کے علاوہ آپؐ خاص  
طور پر حقائق اور معارف کے اظہار کے لئے مجالس منعقد فرماتے تھے۔۔۔

یہی مجالس ہیں جن کی نسبت احادیث میں یہ الفاظ آئے ہیں۔

کان یوماً بارزاً للناس (سنابن مجلس ۲۲)

تیرے دین و دنیا کی بہبودی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! پاچ  
ہزار تو بہت ہیں آپ مجھے تو وہ پانچ کلمات سکھا دیتے آپ نے فرمایا  
کہ اللہمَ اغْفِرْ لِي ذَنْبِيْ وَوَسِعْ لِيْ خُلُقِيْ وَطَيْبِ لِيْ كَسْبِيْ،  
وَقَعْنَى بِمَا رَأَيْتَنِيْ وَلَا تَدْهَبْ قَلْبِيْ إِلَى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِيْ۔

ترجمہ: اے میرے اللہ! میرے گناہوں کو میرے لئے بخشدے اور  
مجھے وسعتِ اخلاق عطا فرماء، میرے کسب کو حلال طیب کر دے اور جو  
پچھو تو مجھے دے اس پر قناعت کرنے والا بنا دے اور میرا دل کی ایسے  
طرف نہ جائے جس کو تو نے مجھے سے پھیر دیا ہو۔

حضرت عبد اللہ بن جعفرؑ پنی بیٹیوں کو ان کلمات کی تعلیم دیتے تھے  
اور ان کو ان کلمات کا حکم دیتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ یہ کلمات  
انہوں نے حضرت علیؑ سے حاصل کئے ہیں اور حضرت علیؑ نے بیان کیا  
ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کو اس وقت کہا کرتے تھے  
جبکہ آپؑ کو کسی امر میں بے چینی ہوتی اور وہ بات آپؑ پر بخت ہوتی تھی۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ  
الْعَلَمِينَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ۔

ترجمہ: عبادت کے قابل بجز اس اللہ کے کوئی نہیں جو انتہائی بردار  
بڑے کرم والا ہے، اس کے لئے ہر طرح کی پاکی ہے، اللہ تعالیٰ بڑی  
برکت والا ہے تمام عالم کا پانے والا ہے اور بزرگ عرش کا رب ہے اور  
تمام تعریفیں ایسے اللہ کے لئے ہیں جو پورا دگار ہے تمام عالم کا۔

حضرت عبد اللہ بن جعفرؑ نے بیان کیا ہے کہ مجھے سے حضرت علیؑ نے  
فرمایا، اے میرے بھتیجے! میں تجوہ کو ضرور ان کلمات کی تعلیم دوں گا جتنا  
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن، جس نے ان کو اپنی وفات

کے وقت کہا جنت میں داخل ہو گا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ  
تین مرتبہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ تین مرتبہ تَبَارَكَ الَّذِي  
بِيَدِهِ الْمُلْكُ يُحْسِنُ وَيُمْسِطُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔  
ترجمہ: برکت والی ہے وہ ذات، اسی کے قبضے میں تمام ملک ہے وہی  
زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔

(حیات الصحابة جلد سوم ص ۱۹۸-۱۹۹)

### حضور ﷺ کی مجلسِ ذکر

”حضرت شداد بن اوسؓ فرماتے ہیں اور حضرت عبادہ بن صامتؓ اس  
واقعہ میں حاضر تھے وہ اس کی تقدیق کر رہے تھے، فرماتے ہیں کہ:  
کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل فيكم غريب  
يعنى اهل الكتاب فقلنا لا، يارسول الله فأمر بغلق الباب  
وقال ارفعوا ايديكم وقولوا لا الله الا الله فرفعنا ايدينا ساعة  
ثم وضع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال الحمد  
للله اللهم انك بعشتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني  
عليها الجنة وابنك لا تخلف الميعاد ثم قال ابشر واقال  
الله عزوجل قد غفر لكم:

ہم لوگ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا  
کیا تم میں کوئی اجنبی یعنی (غیر مسلم) اہل کتاب (یہود و نصاری) ہے؟  
ہم نے عرض کیا نہیں تو آپ ﷺ نے دروازہ بند کرنے کا حکم فرمایا، اور  
فرمایا، کہ ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الله الا الله چنانچہ ہم نے اپنے ہاتھ  
تھوڑی دیر اٹھائے رکھے (اور کلمہ طیبہ پڑھتے رہے) پھر آپ ﷺ نے  
اپنے ہاتھ نیچے کیا، پھر فرمایا کہ: الحمد للہ: اے میرے اللہ تو نے مجھے یہ کلمہ

علی الذکر بقول لا اله الا الله، والله اعلم : اور اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ لا اله الا الله کہنے کے ساتھ ہاتھ اٹھانا مستحب ہے۔ نیز اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اس کلمہ کو اجتماعی طور پر پڑھنا جائز ہے اور ظاہر ہے کہ لوگوں کا اجتماعی طور پر لا اله الا الله پڑھنے کیلئے یہ حدیث اصل ہے بلاغ الانانی، جلد ۳ ص ۲۱۳-۲۱۲ (ذکر اللہ کے فضائل و مسائل ص ۳۹۸)

اس موقع پر اس حدیث کو ”نظام خانقاہی“ کی بنیاد پر اور دینا غلط نہ ہوگا۔

### حضرت شیخ ”کاخواب، خانقاہوں کے قیام کے بارے میں：“

خانقاہ اور خانقاہی نظام کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو سمجھنے کیلئے امید ہے کہ اوپر لکھے گئے مضامین کافی ہو گے۔ ایسے لگتا ہے کہ اب یہ خانقاہی نظام بھی، دعوت و تبلیغ کی اس نظم مخت کے ذریعہ عام ہوتا جائے گا، جس کی طرف حضرت مولانا محمد الیاسؒ نے اپنے ملفوظات میں اشارے فرمائے ہیں۔ آخر میں برکت کے طور پر حضرت شیخ الحدیثؒ کی ایک تحریر خانقاہوں کے قیام کے بارے میں نقل کی جا رہی ہے۔ حضرت شیخ الحدیثؒ اپنا ایک خواب بیان فرماتے ہیں —

”سیدالکونینؑ کی مجھے زیارت ہوئی اور حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ حضورؑ کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے حضورؑ سے شکایت کی کہ زکریا کو حضورؑ کی خدمت میں حاضری کا اشتیاق بہت ہو رہا ہے۔ لیکن میرا بھی چاہے کہ کچھ اور اس سے کام لیا جائے حضور اقدسؑ نے فرمایا کہ ہاں اس کو یہاں آنے کا اشتیاق تو بہت ہے۔ مگر میرا بھی یون جی چاہے کہ اس سے کچھ اور کام لیا جائے۔“

حضرت شیخؒ نے فرمایا۔ اس خواب کے بعد میں بہت حیرت میں پڑ گیا کہ میں کسی کام کا نہیں۔ ساری عمر یوں ہی ضائع کی۔ اب کیا کام کروں گا۔ اور یہ کہ حضورؑ کی خدمت میں حاضری کا اشتیاق میں کیا

دیکھ بھیجا ہے اور اس کلمہ (کی تبلیغ اور اس کے ورد کرنے) کا حکم دیا ہے اور اس کلمہ پر جنت کا وعدہ کیا ہے اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا اس کے بعد آپؐ نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے بے شک تم لوگوں کی مغفرت کروی (رواه احمد بساند حسن والطبرانی وغيرهما کذافی الترغیب وقال الہیشمی رواه احمد فیه شداد بن داؤد و قد و ثقہ غیر واحد و فیہ ضعف وبقیة رجاله ثقات قلت رواه الحاکم فی المستدرک وقال الذہبی راشد ضعفه الدارقطنی وغيره و ثقہ رحیم، انظر الی حیاۃ الصحابة، الجز الثالث ، ص ۲۵۳، وبلغ الامانی الجزء الثالث عشر، ص ۲۱۲-۲۱۳، وفضائل الذکر ، ص ۳۷۳۔“ (ذکر اللہ کے فضائل و مسائل ص ۳۹۸-۳۹۷)

یہ حدیث حیاة الصحابة جلد سوم میں بھی ہے۔ اس حدیث کے فائدے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا فرماتے ہیں —

”صوفیہ نے اس حدیث سے مشائخ کا اپنے مریدین کی جماعت کو ذکر تلقین کرنے پر استدلال کیا ہے، چنانچہ جامع الاصول میں لکھا ہے۔ حضورؑ کا صحابہؓ کو جماعت اور منفرد اور تلقین کرنا ثابت ہے۔ جماعت کو تلقین کرنے میں اس حدیث کو پیش کیا ہے اس صورت میں کو اڑوں کا بند کرنا مستفیدین کی توجہ کے تام کرنے کی عرض شے ہوا اور اسی وجہ سے اجنبی کو دریافت فرمایا کہ غیر کا جمیع میں ہونا حضورؑ پر تشتت کا سبب اگرچہ ہو لیکن مستفیدین کے تشتتؑ کا احتمال تو تھا ہی۔“ (فضائل ذکر، ص ۲۷)

”اس حدیث کے تحت علامہ احمد الرحمٰن البنا فرماتے ہیں کہ:

و فیه دلالة على استحباب رفع اليد عند قول لا اله الا الله وجواز قولها جماعة والظاهر ان هذا اصل اجتماع الناس

! تشتت کے معنی میں انتشار اور افتراق یعنی توجہ کا وہی طرف لگ جانا۔

**روال دوال، کاروال:**  
بہر حال تصوف و سلوک کا راستہ وہ راستہ ہے جو ہزاروں سال سے امت میں نورِ یقین پیدا کرنے کا سبب و ذریعہ بنا ہے جس کے بارے میں حضرت نعمانؓ کی تحریر بالکل شروع میں درج کی گئی ہے کہ —

”قریباً ہزار سال بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت سے امت محمدیہ کے صالح ترین طبقہ نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ نورِ یقین اور ابظع اللہ یعنی احسانی نسبت حاصل کرنے کے لئے صوفیاء کرام کا یہ طریقہ (جس کا نام سلوک و طریقت ہے) اصولاً صحیح اور نتیجتاً کامیاب ہے۔“

(دین و شریعت ص: ۲۳۶)

اور ہمارے تبلیغ کے اکابر علیہ نے اس لائن سے اپنے دعوت کے کام میں بھی استفادہ کیا ہے اور تصوف کا یہ سلسلہ اجازت بیعت اور خلافت کے عنوان سے برابر آگے بڑھتا رہا ہے۔ خود حضرت مجید ثالثؓ کے بہت سارے خلفاء و مجازین ہیں۔ اور علاوہ ازیں ہزاروں افراد صاحب اجازت ہیں اور حسب توفیق بندگانِ خدا کی اس لائن کی خدمت و رہنمائی فرمادی ہیں۔ الحمد لله تعالیٰ ذالک

### بُنگلہ والی مسجد، امیدوں کا مرکز

جس طرح کو عرض کیا گیا ہے حضرت مولانا محمد الیاسؓ نے مسجدِ نبوی والی محنت کے نقشہ ہی کو اپنی محنت کے پیش نظر رکھا ہے۔ تفصیلات اوپر آگئی ہیں کہ یہاں تعلیم و تعلم کا نظام بھی ہے، اور دعوت و تبلیغ کی سرگرمیاں بھی اور ان سرگرمیوں میں ہمارے اکابرین نے تذکیرہ و احسان کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی محنت کی روح اس کو قرار دیا ہے۔ اللہ کرے کہ تا قیامت یہاں سے یہ تینوں محنتیں (تعلیم و تعلم، تذکیرہ و احسان اور دعوت) بیک وقت اور ایک ساتھ چلتی رہیں اور ان میں کسی قسم کا تصادم نہ پیدا ہو۔ تینوں شعبوں کی یہ جامعیت ہی امت کی اور عالم کی ہدایت کی صاف ہو سکتی ہے۔ اور امت میں وحدت اور یگانگت پیدا کر سکتی ہے۔

کروں؟ مگر کچھ دنوں بعد پچاچا جان کا واقعہ یاد آیا۔ وہ یہ کہ جب پچاچا جان (حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؓ) مدینہ منورہ آئے تو ان کا ارادہ یہاں ٹھہر جانے کا ہوا۔ روضۃ اقدس سے ارشاد ہوا کہ ہندوستان جاؤ، تم سے کام لیما ہے۔ پچاچا جان نے فرمایا کہ میں بہت دنوں تک پریشان رہا کہ یوں مجھے نہیں آتا، لکھنا مجھے نہیں آتا، میں ضعیف کیا کام کروں گا؟

کچھ دنوں بعد حضرت شیخ الاسلام مدینیؒ کے بڑے بھائی مولانا سید احمد صاحب مہاجر مدینیؒ نے جب انہیں پریشان دیکھا تو کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم کام کرو بلکہ تم سے کام لیا جائے گا، لینے والا خود لے لے گا۔ اس کے بعد پچاچا جان کو اطمینان ہوا، ہندوستان آ کر تبلیغ کام شروع ہوا، اور ماشاء اللہ خوب چلا۔ میں نے بھی سوچا کہ یوں نہیں کہا گیا کہ تو کر بلکہ یوں فرمایا گیا ہے کہ کام لیا جائے گا۔ میں سوچتا ہی رہا۔ کچھ دنوں کے بعد خیال ہوا کہ ذکر و شغل کی لائن ٹوٹ گئی ہے۔ ہندوستان، پاکستان کی اکثر خانقاہیں غیر آباد ہو گئی ہیں۔ اس واسطے حضرت گنگوہیؒ کی بھی یہی منتشر ہو گئی، ذکر و شغل ان کی خانقاہ کا اہم مشغله تھا۔ جب آنکھوں سے معدور ہو گئے تھے تو تعلیم کی جگہ بھی ذکر و شغل نے لے لی۔ اسلئے مجھے ذکر کا اہتمام ہو گیا۔

اور اس بناء پر اپنے معمولات اور معدودی کے باوجود لندن یا پاکستان اور اب افریقہ جہاں جہاں بھی خانقاہ قائم کرنے کا وعدہ ہو، جس حال میں بھی ہوں، پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کرے یہ کام اللہ کے فضل سے کچھ چل نکلے اور یہی مراد حضرت کی بھی ہو تو کچھ سرخروئی ہو جائے۔

(تذکرہ شیخ ص: ۱۲۸-۱۲۷۔ بحوالہ مقالۃ القلوب ص: ۱۲۸-۱۲۹)

تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند  
اب تیرا فیض ہو عام اے ساقی

## فہرست مآخذ و مراجع - ترکیہ و احسان اور اکابر تبلیغ

نمبر شمار	کتاب کاتاں	مصنف	ناشر	اپنے تیس
۱	آپ بنتی ۲	شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا	کتب خانہ سعیوی سہار پور	- -
۲	آپ بنتی ۵	شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا	کتب خانہ سعیوی سہار پور	- -
۳	تاریخ دعوت و عزیمت سوم	مولانا سید ابو الحسن علی ندوی	جگہ تحقیقات دشراست اسلام، لکھنؤ	۲۰۰۰ء
۴	تاریخ دعوت و عزیمت چہارم	مولانا سید ابو الحسن علی ندوی	جگہ تحقیقات دشراست اسلام، لکھنؤ	۲۰۰۰ء
۵	تذکرہ حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھلوی	حضرت مولانا محمد منظور نعمانی الفرقان بکلڈ پو، ظیر آباد، کھنڈپور ۱۸	الفرقان بکلڈ پو، ظیر آباد، کھنڈپور ۱۸	۲۰۰۶ء
۶	تذکرہ تصحیح	مولانا خلیل الرحمن جاہ نعمانی	الفرقان بکلڈ پو، ظیر آباد، کھنڈپور ۱۸	- -
۷	تذکرہ مجدد الف ثانی	حضرت مولانا محمد منظور نعمانی	الفرقان بکلڈ پو، ظیر آباد، کھنڈپور ۱۸	۲۰۰۷ء
۸	حضرت مولانا محمد ایوب اولان کی دینی دعوت	مولانا سید ابو الحسن علی ندوی	الفرقان بکلڈ پو، ظیر آباد، کھنڈپور ۱۸	۱۹۷۲ء
۹	حیات الصحابہ سوم	مولانا محمد یوسف کاندھلوی ادارہ اشاعت دینیات، تربیت مولانا محمد حنفی خان صاحب فیض قابوی	حضرت نظام الدین، فیض قابوی	- -
۱۰	دین و شریعت	حضرت مولانا محمد منظور نعمانی	الفرقان بکلڈ پو، ظیر آباد، کھنڈپور ۱۸	۲۰۰۵ء
۱۱	ذکر اللہ کے فضائل و مسائل	مولانا سید مفتی عیارالدین کروڑی	—	- -
۱۲	سوائی حضرت جی مولانا محمد یوسف	مفتی عزیز الرحمن صاحب بخاری	—	- -
۱۳	سوائی مولانا محمد انعام الحسن اول	مولانا سید محمد شاہ صاحب بخاری	مکتبہ یادگار شیخ، سہار پور	- -
۱۴	سوائی مولانا محمد انعام الحسن سوم	مولانا سید محمد شاہ صاحب بخاری	مکتبہ یادگار شیخ، سہار پور	- -
۱۵	سیرہ البی دوم	مولانا سید سلیمان ندوی	مکتبہ دینی، اروہا بازار لاہور	۱۹۰۸ء
۱۶	فضائل ذکر	شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا	ادارہ اشاعت دینیات، فیض قابوی	- -
۱۷	معارف الحدیث پنج	حضرت مولانا محمد منظور نعمانی	الفرقان بکلڈ پو، ظیر آباد، کھنڈپور ۱۸	۱۹۸۳ء
۱۸	معارف القرآن اول	مفتی محمد تفعیل صاحب	مکتبہ مصطفا کیم ویسٹ	- -
۱۹	مکاتیب حضرت مولانا شاہ محمد الیاس	مولانا سید ابو الحسن علی ندوی	کتب خانہ محسن بر قی اردو و دہلی ۶	۱۹۶۲ء
۲۰	ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس	حضرت مولانا محمد منظور نعمانی	الفرقان بکلڈ پو، ظیر آباد، کھنڈپور ۱۸	۲۰۰۵ء
۲۱	ملفوظات و اقتباسات حضرت جی مولانا محمد یوسف	مفتی روزن شاہ صاحب قاسمی	ادارہ اشاعت دینیات، فیض قابوی	- -